

درود پیر

احمد نذیر زیدی

صغیر اللہ

درود پیوار

# درود پوار

احمد ندیم قاسمی

اساطیر پبلشرز لاہور

## جملہ حقوق محفوظ

کتاب	: درودیوار (افسانے)
اہتمام	: منصورہ احمد (اساطیر)
کمپوزنگ	: فراز کمپوزنگ سنٹر، میاں مارکیٹ، اردو بازار لاہور
سرورق	: شاہنواز زیدی
مطبع	: شرکت پرنٹنگ پریس، نسبت روڈ لاہور
سنہ اشاعت	: 1995ء

تعداد : ایک ہزار

قیمت : 140/- روپے

ناشر

اساطیر پبلشرز 45، اے مزنگ روڈ، لاہور۔

نہایت پیارے دوست

مندلال کے نام

جو ملتان کا رہنے والا ہے

دہلی میں ملازم ہے اور

جسے رہتک میں مکان

الاٹ ہوا ہے

ندیم

## فہرست

۹	۱- میں انسان ہوں
۲۳	۲- نیا فریاد
۳۴	۳- تسکین
۴۴	۴- جب بادل اُٹھے
۶۲	۵- سپاہی بیٹا
۷۲	۶- ووٹ
۹۱	۷- کہانی لکھی جا رہی ہے
۱۱۳	۸- راجے مہاراجے
۱۴۶	۹- مصوّر (ڈرامہ)

## میں انسان ہوں

میں انسان ہوں؛ کلائی پر کھدے ہوئے 'اوم' ٹوپی پر نکلے ہوئے چاند ستارے اور پہلو میں لٹکتی ہوئی کرپان کے باوجود میں انسان ہوں۔ میں ساری دھرتی کا باشندہ ہوں۔ اور میں ایک ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں جو ستاروں اور پھولوں اور پانیوں میں بسا ہوا ہے لیکن جس سے آج تک میری مڈ بھیڑ نہیں ہوئی۔ میرا خمیر کسی ایسے مرکب سے اٹھا ہے جس میں تلاش کا مادہ ضرورت سے زیادہ ملایا گیا ہے۔ میرا 'اوم' میرا چاند ستارہ اور میری کرپان میری اس ازلی تلاش کے کارنامے ہیں۔ میرے ارتقاء کی تاریخ میں آوارگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور گھاٹ گھاٹ سے واپس پلٹا ہوں۔ یہ پیاس ہی میری تلاش ہے اور زندگی ہے اور آخرت ہے اور میں اس وقت بھی پیاسا ہوں۔ مکئی کے بلند پودے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں "دھرتی کے لال! تو پیاسا ہے، مگر ہم تیری پیاس کیسے بجھائیں۔۔۔ تو اس دن سے ہمیں سینچتا چلا آ رہا ہے جب سورج کی کرنوں نے پہلی بار سرمئی رنگ کے دھند لکوں کو کترا تھا اور چشمے پھوٹے تھے اور جھرنے رینگے تھے۔۔۔ لیکن اس وقت تو ہمارے پاس اس کے چند قطروں کے سوا کچھ نہیں اور یہ قطرے بلندی پر ہیں اور تو پستیوں میں ہے۔ ہم جھک نہیں سکتے تو ابھر نہیں سکتا، اس لئے تو بھی بے بس ہے اور ہم بھی بے بس ہیں۔ اور دھرتی کے لال! بے بسی ہی زندگی اور بے بسی ہی موت ہے"۔۔۔

اور اس کے بعد مکئی کے پودوں کی یہ سرگوشی ایک سرے سے دوسرے سرے تک سرسراتی چلی جاتی ہے۔ وہاں تک جہاں عورتوں بچوں کی تازہ لاشیں لہو کی ننھی ننھی تلیوں کے کنارے انسانیت کی ازلی پیاس کو مجتسم کیے پڑی ہیں اور شاید وہاں تک بھی جہاں معصوم بچے کے ہونٹوں سے دودھ کی پیاس جسے ہوئے لہو کی تہوں کے نیچے چمٹی ہوئی ہے۔۔۔ آج ساری انسانیت پیاسی ہے اور میں بھی انسان ہوں، اس لئے میں بھی پیاسا ہوں۔

میں اپنی جلتی ہوئی کٹی پھٹی زبان کی نوک سے ان پودوں پر سے اوس کا ایک ایک قطرہ چن لینا چاہتا ہوں، لیکن اوس کے قطرے تو شاعروں اور مصوروں کی خوراک ہیں ان سے روح شاید ہری بھری ہو جاتی ہو مگر پیٹ خالی ہی رہتا ہے اور میں نہ شاعر ہوں اور نہ مصور، میں انسان ہوں اور میں پیاسا ہوں۔ میری زبان اکڑ گئی ہے۔ میرے تالو سے جیسے ٹین کا دکھتا ہوا پترا چپک گیا ہے۔ میرے گلے کو چیونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ پیاس میرے ہتھپھڑوں کو لپیٹے اور سمیٹے جا رہی ہے اور میری سانسیں رک رہی ہیں، اور میرے دماغ میں آبشار سے گر رہے ہیں اور مجھے گھونٹ بھر پانی کی تلاش ہے۔

مکئی کے پودوں میں پھنسی ہوئی کیچڑ کو میں نے کئی بار چاٹا ہے مگر میرے تالو اور زبان سے وہ قوت کیا ہوئی جو کیچڑ سے پانی نچوڑ لے۔ میں نے کونکے سے تیل اور پتھروں سے آگ نچوڑی ہے مگر اب میں کیچڑ سے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں نچوڑ سکتا، اور کیچڑ نے خشک ہو کر میرے ہونٹوں کو کمان کی زہ کی طرح تان رکھا ہے۔ چمکتے ہوئے سبز رنگ کی ایک مکھی بار بار میرے حلق تک گھوم آتی ہے۔ اسے نمی کی تلاش ہے اور میں ایک پیاسا انسان ہوں اور مکئی کے پودوں کی جڑیں گن رہا ہوں۔۔۔ ایک دو تین چار۔۔۔ ان سب نے ایک پودے کو سنبھال رکھا ہے اور بلند پودا اپنے سر پر کلغی سجائے جھوم رہا ہے۔۔۔ میں سوچتا ہوں اگر یہ جڑیں ایک ایک کر کے پودے کے



قدموں تلے سے کھسکنے لگیں تو یہ میری طرح زمین پر آرہے۔ میری طرح کیچڑ چاٹنے لگے۔ لیکن اس کی جڑیں مضبوط ہیں اس لئے یہ تنا کھڑا ہے اور میں زمین پر پڑا ہوں، اس لئے کہ میری بنیادیں کمزور تھیں، اس لئے کہ میں انسان ہوں۔ اور میں پیاسا ہوں۔

گاہے گاہے مجھے ابابیلوں کی آواز سنائی دے جاتی ہے، — کہتے ہیں ابابیل بادل کی محبوبہ ہے۔ ابابیل! کی آواز آس پاس کے پربتوں کا رخ کر کے سوئے ہوئے بادلوں کو چونکاتی ہے۔ اور وہ صفیں باندھ کر اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ — میں نہیں دیکھ سکتا ابابیلو، مگر محسوس کر سکتا ہوں کہ تم ٹوٹے ہوئے پروں کی طرح صاف ستھرے آسمان پر اڑانوں کے تانے بانے بن رہی ہو اور دائرے بنا رہی ہو اور بادلوں کو بلا رہی ہو۔ — یونہی گاتی جاؤ اور پکارتی جاؤ کہ شاید اس لٹی ہوئی دھرتی کے کسی کونے کھدرے میں بادل کی کوئی دھجی تمہارے گیت، تمہاری پکار کو سن لے اور تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہو اور جب وہ مکئی کے اس کھیت پر آئے تو تھک ہار کر رو دے اور میں چڑیا کے پیاسے بچے کی طرح منہ کھول دوں اور بادل کے آنسو میرے چٹخے ہوئے حلق کی آگ بجھائیں، اور خون کی ننھی ننھی تلیوں کے کنارے چھلک پڑیں اور جسے ہوئے لہو کی تمہیں دھل جائیں اور کھلے ہونٹوں سے چمٹی ہوئی دودھ کی پیاس ان آنسوؤں ہی سے بجھ جائے۔ — اور جب یوں ہو تو میں اپنے گھر کی چھت میں گڑے ہوئے آزاد جھنڈے کو ہمیشہ کے لئے سرنگوں ہونے سے بچالوں۔

جھنڈا پوری طرح نہیں گڑنے پایا تھا نا۔ — وہ ایک طرف جھک گیا تھا۔ جب انسانیت بم کے گولے کی طرح ایک چکرا دینے والے دھماکے کے ساتھ پھٹی ہے تو وہ ایک طرف جھکا ہوا اپنا سینہ کوٹ رہا تھا۔

صبح کیسی کنواری کنواری لگتی تھی اور گلیوں میں لوگ تیزی سے

معبدوں کی طرف چپ چاپ لپکے جا رہے تھے۔ یہ میرے وطن کی آزادی کا پہلا دن تھا اور میں اس کے ماتھے پر سہرا باندھنے کے لئے آزاد جھنڈا اٹھائے چھت پر آ گیا تھا۔ بہو نے جھنڈے کی تیاری کے لئے تین نئے ریشمی دوپٹے نذر کر دیئے تھے اور پھر انہیں اس نفاست سے سیا تھا۔ جیسے اپنے ننھے کا عروسی جوڑا تیار کر رہی ہے۔ رات بھر ہم سوچتے رہے کہ یہ جھنڈا کون گاڑے۔ بہو کہتی تھی یہ میرے دوپٹوں سے بنا ہے اور اسے میں نے سیا ہے۔ بیٹا کہتا تھا کہ میں نے اس جھنڈے کی تخلیق کے لئے لاٹھیاں کھائی ہیں اور گیسیس پی ہیں۔ میں کہتا تھا کہ میرا سن دیکھو، میرے ارمان دیکھو، میرا حق دیکھو۔ اور میرا معصوم پوتا پالنے میں پڑا ربر کی گڑیا سے سیٹیوں کی آوازیں نچوڑ رہا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ گجر دم سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلے وہی جھنڈا گاڑے۔ اور میرے بیٹے نے کہا تھا۔ ”نیند کسے آئے گی؟“ — ہم سب ہنس دیے تھے اور دیر تک جاگتے رہے تھے اور باتیں کرتے رہے تھے کہ اب ہم آپ ہی حکمران ہیں اور ہمارا ننھا آنے والے دور کا سالار ہے اور انگریز بھاگ نکلا ہے — اور پھر جوانی اونگھنے لگی اور بڑھاپا جاگتا رہا۔

میں جب چھت پر آیا ہوں تو چاند مغربی دھند میں یوں اٹک سا گیا تھا جیسے مکئی کے بھٹے کا چھلکا ہوا میں اڑتے اڑتے خم کھا کر جم جائے — عجیب بات تھی کہ زمین پر ایک اتنا بڑا انقلاب جنم لے رہا تھا اور چاند کا تار زرد اور مڑا تڑا سا تھا۔ اکاؤ کاستاروں میں رقص کے بجائے اینٹھن سی تھی۔ اور مشرق میں چاند ایک مایوس مریض کی طرح افق پر کہنی رکھے جیسے کسی کریناک سوچ میں غرق تھا، جیسے وہ بھی میری طرح پیا سا تھا۔

میں نے جب جھنڈے کو ہوا میں بلند کیا تو وہ پھڑ پھڑا کر لکڑی سے لپٹ گیا۔ ایک ٹڈا کواڑ کے ایک کونے میں سے پکارا اور پھر جیسے اس کا گلا گھٹ گیا۔ کواڑ کے قریب ہی بندھی ہوئی بکری نیند میں میائی — غارت ہو جاؤ سب

کے سب، اتنی طویل تلاش کے بعد انسان نے اپنے آپ کو پایا ہے مگر کچھ بھی تو نہیں ہو رہا۔۔۔۔۔ کوئی ہنگامہ۔۔۔۔۔ کوئی ہلچل۔۔۔۔۔ ارے کوئی طوفان ہی آجائے۔ کوئی زلزلہ ہی آنکے۔ کہیں آگ ہی بھڑک اٹھے۔۔۔۔۔ کچھ تو ہو۔۔۔۔۔ خدا کے لئے کچھ تو ہو۔۔۔۔۔ جی میں آئی زور زور سے چیخنے اور گانے اور بلبلانے لگوں اور دھرتی کو چونکا دوں اور نیند بھری آنکھوں کے سامنے اس جھنڈے کو نچاؤں اور پکاروں۔۔۔۔۔ ”ہم آزاد ہیں“ ارے ہم آج سے آزاد ہیں۔ آؤ مل کر ایک نعرہ لگائیں جو مشرق و مغرب کے انسان فروشوں کے محلوں میں گھس کر اڑ رہے کی دودھاری زبان بن کر ناچے اور پھنکارے۔۔۔۔۔ کچھ تو ہو۔ خدا کے لئے کچھ تو ہو!

اور کچھ دور مجھے آگ کا ایک شعلہ دکھائی دیا جو لمحہ بہ لمحہ سر بلند ہونے لگا اور پھیننے لگا اور پھریوں ساکت و صامت ہو گیا جیسے اس وقت میں بدبو دار کیچڑ میں بے حس و حرکت پڑا ہوں۔ مکئی کے لمبوترے پتوں کے کنارے اوس کے قطرے کپکپا رہے ہیں اور میری زبان کی جڑ جیسے کسی مضبوط تار سے جکڑی جا چکی ہے۔ اگر میں زبان کو چبا کر اپنے ہی خون کے چند قطرے پی سکتا تو شاید مجھ میں اٹھنے کی قوت آ جاتی اور میں اوس کے ایک ایک قطرے کو زبان کی نوک سے چن لیتا، لیکن اب تو یہ نوک تک غائب ہو رہی ہے اور زبان پھول کر میرے جڑے میں پھنس کر رہ گئی ہے اور چیخ رہی ہے اور بار بار سبز پروں والی ایک مکھی اس پر بھنبھناتی ہوئی میرے حلق تک ہو آتی ہے۔۔۔۔۔ آگے نہ جانا کیونکہ میرے گلے سے نیچے عفونت اور کثافت کے اتھاہ غار ہیں جہاں تم میری انسانیت کے کھنڈروں میں الجھ کر رہ جاؤ گی اور میں سراپا الجھاؤ ہوں کیونکہ میں انسان ہوں۔

لیکن اُس روز میرے دل میں کوئی الجھن نہ تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے تازہ تازہ آسمان پر سے اتارا گیا ہے۔ عناصر میرے خدمت گزار ہیں۔

ساری دھرتی میرا گھر ہے اور میرے شفاف ذہن پر ابھی تلاش کی کائی نہیں جمنے پائی۔۔۔ سامنے منجمد سے شعلے میں نئی نئی صبح کے اجالے نے کہیں کہیں زردی کی دھاریاں دوڑادی تھیں۔ مندر میں سنگھ بچ رہا تھا، مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور یہ ملی جلی آوازیں ہوا میں لہک لہک کر آپس میں لپٹ لپٹ جاتی تھیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آوازیں بغلگیر ہونے کے بعد ایک ابدی صدا میں بدل گئی ہیں۔ جیسے وہ اب تک جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی اور جیسے وہ بڑھ رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں اور میرے قریب آ رہی ہیں۔۔۔ مجھے تھپک رہی ہیں۔۔۔ مجھے چونکا رہی ہیں۔۔۔ اور پھر۔۔۔ اور پھر جیسے مجھے جکڑ رہی ہیں۔۔۔ نوح رہی ہیں، مھنبھوڑ رہی ہیں۔

”یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟“

میں چلایا۔۔۔

گلی میں ایک شخص سرپٹ بھاگتا ہوا گزرا۔ وہ کہہ رہا تھا، ”یہ انسان ہیں۔ یہ دھرتی کے کلیجے سے نکلے ہیں اور یہ دھرتی کا کلیجہ چبانے چلے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں لہو اور ہاتھوں میں خون آلودہ ہتھیار ہیں اور ان کے دانتوں کی رینخوں میں انسانی گوشت کے ریشے ہیں۔“

”تم غلط کہتے ہو۔“ میں چلایا۔ ”آج ہی تو انسان نے اپنے آپ کو پایا ہے،“

وہ آج ہی اپنے آپ کو کیسے کھو سکتا ہے، جس صبح کو اپنے قریب لانے کے لئے اس نے اپنے بچوں کو ہنسی خوشی پھانسی پر چڑھ جانے کی اجازت دے دی اور جس دن کے انتظار میں اس کے پیارے فرزندوں نے کال کو ٹھریوں میں اپنی زندگی کی بہاریں گنوا دیں وہ یہی صبح تو ہے اور اس صبح کو یہی انسان اپنے ہی خون اور گوشت کے ریشوں سے ملوث کرنے نکلا ہے! نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، یہ مسرت کا ہنگامہ ہے اور ہر ہنگامہ لہو کا پیاسا نہیں ہوتا۔ آج ہنگامے کا مفہوم بدل چکا ہے۔۔۔ اور میں نے جھنڈے کو اونچا کرتے ہوئے کہا۔ ”آج دو

سو سال کے ہر پرانے مفروضے کا مفہوم بدل چکا ہے۔ — آج ہمارا جھنڈا تک بدل چکا ہے۔“

جھنڈے کا نیا نیا ریشم بے قرار ہو کر سر سرانے لگا جیسے کہہ رہا۔ ”آہستہ بولو بھئی۔ مجھے آزادی کے قدموں کی چاپ سن لینے دو۔ میں صدیوں سے سرنگوں ہوں۔ مجھے سر بلند ہو کر دھرتی کے ان کناروں کو دیکھنے دو جہاں آج جشن منائے جا رہے ہیں اور توپیں میری سلامی اتار رہی ہیں، اور لوگ میرے ارد گرد ناچ رہے ہیں اور گارے ہیں۔“

ایک دم بہت سے نعرے بلند ہوئے، گلیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ کھڑکیوں اور روشن دانوں سے کودنے لگے، دھرتی آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں آ گئی۔ آس پاس سے اٹھا پٹخ اور واویلا اور چیخوں اور کراہوں کی آندھی اٹھنے لگی اور میں نے وحشت زدہ ہو کر جھنڈے کو چھت میں گاڑ دیا۔ میں سیڑھی کو بھول کر منڈیر پر سے لٹک کر اترنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ بند کواڑوں پر ان گنت دوہتر اور پتھر برسے، اور پھر چنگھاڑتے ہوئے ہجوم نے آن کی آن میں دونوں کواڑوں کو اس زور سے دھکیلا کہ بالائی حاشیے کی اینٹیں لڑھکتی ہوئی دالان کے دوسرے سرے تک بکھر گئیں۔ کواڑ دھڑام سے گرے اور بکری زمین اور لکڑی کے درمیان پچک کر رہ گئی۔ وہ دو ایک بار تڑپی، دو ایک بھیانک آوازیں نکالیں۔ اس کے نتھنوں سے دودھ اور لہو گھل مل کر رسنے لگا اور پھر وہ زبان کو چھیتھڑے کی طرح لٹکا کر بے حس ہو گئی۔

اور میں منڈیر پر ساکت وصامت بیٹھ گیا۔ — جیسے خاص اہتمام سے ٹکٹ خرید کر سرکس کا تماشہ دیکھنے آیا ہوں۔

کواڑ کے گرتے ہی میرا بیٹا ہڑبڑا کر اٹھا مگر ایک لبوترے نیزے پر پرو دیا گیا اور پھر پھیلے ہوئے نتھنوں اور جھکی ہوئی بھوؤں والے ایک انسان نے دوسرے انسان کو مخاطب کیا۔ یہ جھنڈا کیسا رہے گا!“ — خوفناک قہقہوں

کے پتھراؤ میں میرا بیٹا چرخی کی طرح ٹانگیں گھماتا، ہاتھ پٹختا، بل پہ بل کھاتا کر رہا۔  
”جھنڈا پہلے تم نے گاڑا، مبارک ہو، مبارک ہو۔“

ہو نے اچھل کر اپنے شوہر کو نیزے سے نوچ لینا چاہا مگر اکٹھے بہت سے لوگوں نے اسے جکڑ لیا اور اس کی قمیض پھاڑ کر پھینک دی۔ وہ ان کی گرفت سے نکل کر گوشت کی ایک گٹھڑی کی طرح لڑھکتی ہوئی دالان کے پرلے کونے تک چلی گئی اور باہوں میں اپنا سینہ چھپانے لگی۔ مگر انسان نے تو بڑے بڑے پہاڑوں میں راہیں تراشی ہیں، باہوں کی ڈھالیں اس کے سامنے کیسے ٹھہر سکتیں، اسے اٹھا کر ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر سیدھا تان لیا گیا، اور پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر مڑے ہوئے خنجر سے اس کی ایک چھاتی کاٹ کر اوپر اچھال دی جو دھب سے بلبلاتے ہوئے ننھے کے منہ پر گری اور پھر زمین پر آ رہی۔ ایک شخص نے اسے ایڑی سے مسلتے ہوئے کہا، ”دوسرا گنبد بھی اکھیڑ لو“  
— اور اب میری بہو کی دوسری چھاتی تراشی گئی، مگر اس کو ہوا میں اچھالنے کا تکلف نہیں کیا گیا بلکہ خدا کے ایک خلیفہ نے اسے بچے کے منہ پر کھینچ مارا۔

اور میں سرکس کا تماشا دیکھتا رہا۔

میں ازل سے ایک تماشائی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں نے ان آنکھوں سے انسانوں کو انسانیت کا لہو چاٹتے دیکھا ہے۔ میں نے کھوپڑیوں کے ہار اور مینار بنتے دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بیٹوں نے ماؤں کے پیٹ پر لات مار دی اور بھائیوں نے بہنوں کی مانگوں کا سیندور دھو کر پی لیا۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ میں ایک خاموش تماشائی ہوں، میں ساری کائنات کا دولہا ہوں، میں انسان ہوں۔

میں نے اپنے بیٹے کو نیزے کی نوک پر ششخنی عالم میں ہاتھ پاؤں گھماتے دیکھا اور پھر جیسے نئی نئی صبح کی ساری سفیدیاں اس کی آنکھوں کے

ڈھیلوں میں اتر آئیں؛ وہ ایک بار کمان کی طرح مڑ کر سیدھا ہوا اور باہوں کو بے قراری سے پٹخ کر بے حس ہو گیا۔ اور میں تماشہ دیکھتا رہا۔

میں نے بہو کے جسم پر سے آدمیت اور نسوانیت کے منبعوں کو اکھڑتے دیکھا جن سے بڑے بڑے اوتاروں، بزرگوں اور گروؤں نے زندگی کا رس چوسا تھا۔ جن سے پھوٹی ہوئی دودھ کی دھاروں میں مامتا تھی اور طہارت تھی اور زندگی تھی۔ اور انسانیت کی یہ تخلیق گاہیں جب نسوانیت کے مقبرے بن کر میرے معصوم پوتے پر گریں تو انہوں نے دودھ کے پیاسے ہونٹوں پر لہو نچوڑ دیا اور میرے اندر انسانیت سرپیٹ کر رہ گئی اور جھکا ہوا آزاد جھنڈا میرے سر پر برابر تالیاں سی بجاتا رہا اور دھواں گہرا ہوتا گیا اور نعروں کے شور میں شدت آتی گئی۔

اب ہجوم نے میرے معصوم پوتے کا رخ کیا۔ تجویز ہوئی، ”دیوار پر پٹخ دو۔“

انسانی مجلس دستور ساز کا دوسرا رکن بولا۔ ”ٹانگوں سے پکڑ کر چیر دو۔ روئی کی طرح نرم تو ہے ہی۔“

مجلس کا صدر میان سے چھری نکال کر پکارا۔ ”چولہا موجود ہو تو کباب دھوپ میں نہیں بھونا کرتے۔“

اور خون آلود چہرے والا بچہ جس کا ایک ہاتھ تو ماں کی کٹی ہوئی چھاتی پر تھا اور دوسرے ہاتھ نے ربڑ کی گڑیا کو جکڑ رکھا تھا سمٹ کر ہٹا اور ربڑ کی گڑیا بلبلا اٹھی۔ جھنڈے نے جیسے اپنی چھاتی کوٹ لی اور میں نے چیخ کر کہا۔ ”نہیں تم ایسا نہیں کرو گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ نیا انسان ہے، یہ مستقبل کا وارث ہے۔ اسے ایک نئی دنیا کو جنم دینا ہے۔“ اس کی قدر کرو، اس کی پوجا کرو، اسے سلامی دو۔“

اور تئی ہوئی چھری نے نئے انسان کو سلامی دی اور ادھر لبانیزہ

میرے بیٹے کے پیٹ پر لات رکھ کر کھینچا گیا۔ نیزے کی انی انٹریوں کا ایک ڈھیر باہر گھسیٹ لائی اور پھر سرخ انی جو ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی میں شعلے کی زبان بن گئی تھی، مجھ پر جھپٹی اور میری ران کو کاٹ کر پھر سے شعلے کی زبان بن گئی۔ میں دھم سے نیچے آ رہا۔ اٹھا تو گوشت کا ایک ٹکڑا میری ران کے ساتھ بھیگی ہوئی دھجی کی طرح لٹک رہا تھا مگر میں اپنے پوتے کی طرف لپکا چلا گیا۔ اسے اٹھانے ہی والا تھا کہ چھری نے اس کی گردن میں دھنس کر نئے نظام اور نئے انسان کو ایک اور سلامی دی، وہ تڑپ کر زمین پر آگرا اور ربڑ کی گڑیا اس کے ایک پہلو تلے دب کر بلبلا اٹھی!

اپنے بیٹے کی انٹریوں پر سے پھسلتا ہوا میں ننھے پر جاگرا اور پھر اسے اٹھا کر گرے ہوئے کواڑوں تک پہنچا ہی تھا کہ نیزے نے میری پنڈلی ادھیڑ ڈالی۔ میں چکرا کر گرا اور میرا پوتا گھوم کر اپنی ماں کے لہولہان سینے پر آ رہا۔ حیرت ناک تیزی او مستعدی سے میں نے نیزے کو پنڈلی میں سے کھسونا اور بچے کو ایک بازو سے کھینچ کر باہر گلی میں آگیا، اور پھر وہاں سے بھاگا۔ بچے کو میں نے سینے سے چمٹا رکھا تھا۔ چاروں طرف چیخوں اور قہقہوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور معبد جل رہے تھے اور آس پاس ابھرتے ہوئے دھوئیں میں دکھتی ہوئی لکڑیاں چٹکیاں سی بجا رہی تھیں، اور ننھے کی ناک اور منہ سے خون رس کر آس پاس جم گیا تھا۔ اور میں بھاگتا چلا گیا۔ کسی نے میرا تعاقب نہیں کیا۔ کسی نے مجھے پکارا نہیں، کیونکہ انسانوں کا شکار ہرن کا شکار نہیں کہ ایک ہی ہرن کے تعاقب پر جنگل کا جنگل چھان ڈالا جائے، یہاں تو قدم قدم پر انسان ملتے ہیں جو ہرنوں کی طرح برق رفتار بھی تو نہیں ہوتے۔

اب میں کھیتوں میں آگیا تھا۔ سورج نے مکئی، باجرہ اور جوار کے کھیتوں پر سونا چھڑک دیا تھا اور ہوا ہولے ہولے اٹھلا رہی تھی اور آسمان صاف ستھرا تھا اور درختوں پر چڑیاں بول رہی تھیں اور پدے پھدک رہے تھے



اور بہت اوپر ابا بلیں بادلوں کو پکار رہی تھیں، اور دھرتی جس دولہا کے لئے سج رہی تھی، وہ میرے سینے سے لگانہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ملائم بال اس کے ماتھے پر لٹک آئے تھے، بڑی بڑی آنکھوں کے پوٹوں پر نیندوں نے دم توڑ دیا تھا۔ ناک کے بانسے، گالوں، پلکوں اور ہونٹوں کے خموں پر خون جم گیا تھا۔ اور پھر مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے ہونٹ ماں کا دودھ مانگ رہے ہیں۔

دھرتی کی مامتا لٹ چکی ہے میرے ننھے، اور ماں کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں۔ اب ان چھاتیوں سے دودھ نہیں پھوٹے گا۔ اب ان میں سے دکھتا ہوا لہو اور کھولتے ہوئے آنسو بہیں گے اور ان کی جگہ وہ ناسور لے لیں گے، جن سے پیپ رسے گی۔ تم اس دنیا میں قطعی ایک اجنبی کی حیثیت رکھتے ہو۔ کیسی عجیب سی سادگی ہے تمہاری کہ تم باوجود اس اجنبیت کے دودھ کے پیاسے ہو۔ البتہ میں تمہارے لئے کہیں سے پانی ضرور تلاش کر لوں گا۔

اور وہاں ایک جھاڑی کے قدموں میں بچے کو لٹا کر میں نے اٹھنا چاہا تو تلملا کر رہ گیا۔ ران اور پنڈلی سے اُبلتے ہوئے خون سے میری ٹانگ اکڑ رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے چکراتے ہوئے سرخ ستاروں کے ہجوم الجھ الجھ کر گر رہے تھے اور سمت کا احساس مٹ رہا تھا۔ بچے کے ہونٹوں پر اب تک دودھ کی خاموش پکار تھی۔

میں ریگننے لگا۔ میری ہر حرکت پر زخم لہو کے چلو اندیل دیتے تھے، مگر میں ریگلتا چلا گیا کہ شاید دھرتی کے کسی مقام پر مجھے پانی کی ایک بوند دکھائی دے جائے، شاید اس کا کلیجہ ابھی پوری طرح خشک نہ ہوا ہو۔ شاید۔ شاید۔ اور میں اس امید پر ریگلتا چلا گیا۔

میں نہیں جانتا تھا کہ میرا رخ کدھر ہے، میرے دماغ پر بس

ایک ہی دھن سوار تھی کہ ایک بار انسانیت کی آخری یادگار کے پیاسے ہونٹوں کو تر کر سکوں۔۔۔ شاید خون کی تہوں کے نیچے زندگی کی کوئی رمتی باقی ہو اور یہ رس چمک اٹھے اور نیا انسان زندہ ہو جائے اور ان دیاروں کو آباد کرے جہاں شعلے ناچے ہیں اور دھوئیں نے چٹکیاں بجائی ہیں، ان کھیتوں کی نگرانی کر سکے جہاں اچھوتے جسموں کو دبوچا اور نوچا گیا ہے۔ ان راہوں پر گیت گاتا ہوا گزر سکے۔ جنہیں مقتلوں کی صورت دے دی گئی ہے، شاید اس کے دم سے انسانیت اپنے آپ کو پہچانے اور آنکھوں میں اترا ہوا خون اپنے اصلی مقام کی طرف لوٹ کر صحت مند دھڑکنوں میں بدل جائے۔۔۔ شاید۔۔۔ شاید۔۔۔ اور میں اس امید پر رینگتا چلا گیا۔

میں مکئی کے اس کھیت تک رینگ آیا۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے عورتوں اور بچوں کی تازہ تازہ لاشیں نظر آئیں۔ دھجی دھجی بچے ماؤں کی کٹی ہوئی رانوں میں دبکے پڑے تھے اور مائیں عفت کے بجھے ہوئے چراغوں کو خراش زدہ بازوؤں سے ڈھانپنے جیسے کہہ رہی تھیں۔۔۔ کیا فرشتوں کے والہانہ سجدے کی یہی قیمت تھی؟ کیا ابلیس سچ مچ بغاوت کا مرتکب ہوا تھا؟ کیا یہی وہ آزادی ہے جس کے ہمارے شاعروں نے گیت گائے اور ہمارے رہنماؤں نے قسمیں کھائیں۔۔۔ اور کیا یہی وہ انسان ہے جس کی خاطر آسمانوں پر ستاروں کی قدیلیں جلائی گئیں؟۔۔۔ اور زمین پر پھولوں کے فرش بچھے اور ہواؤں میں خوشبوئیں رچیں اور جھرنے گنگنائے سمندروں نے مرمریں سپیاں نچھاور کیں اور سنہری خوشوں میں زندگی نے جنم لیا۔۔۔ اور خدا نے اس کے پاس اتار، پیغمبر اور گرو بھیجے کہ یہ اور سنورے اور نکھرے اور کائنات کو دلہن بنا دے۔۔۔ اور دھرتی سدا سہاگن رہے؟۔۔۔ اور کیا دھرتی کا سہاگ یہی ہے کہ اناج پیدا کرنے والے پودوں کی اوٹ میں ماؤں اور بہنوں کے جسموں سے ان کی طہارت کو کو کھسوٹ کر خاک پر پٹخ دیا گیا

— اور بچوں کی ملائم جلد پر خجروں کی دھاریں آزما کی گئیں، اور بوڑھوں کی ہڈیوں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح توڑا گیا اور جوانوں کی انتڑیاں درختوں پر لٹکا دی گئیں — اور کیا باوجود اس کے زمین پر اب تک کوئی غیرت مند انسان زندہ ہے؟ کیا مشرق و مغرب میں کسی ایسے انسان کا سراغ اب بھی مل سکتا ہے جو ماتا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ رکھتا ہو؟ — اور کیا تم انسان ہو؟ — تم جو ایک ننھی جان کو ایک جھاڑی کے قدموں میں پھل کی گٹھلی کی طرح بے کار سمجھ کر پھینک آئے ہو اور اس ویرانے میں پانی کی تلاش میں ہو — تم جو اس صحرا کا آخری نخلستان اپنے سینے سے لگائے بھاگے تھے — تم پانی کی تلاش میں ہو؟ — مگر کس لئے؟ — انسانیت کے آخری وارث کے لئے؟ — تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ خود اپنی پیاس بجھانے کے لئے تمہیں پانی کی تلاش ہے!

اور معاً "جیسے زمین کے ذرے ذرے سے "پانی پانی" کی پکار اٹھی۔ میرا حلق چرانے لگا، اور زبان پر جیسے خشک جھلی منڈھ گئی — "پانی پانی" میں کراہتا ہوا ریگنے لگا — اور ریگتے ریگتے یہاں تک آ گیا۔ مکئی کے ان پودوں کے سائے میں، جنہیں بہت سی جڑوں نے مل کر سنبھال رکھا ہے۔ "پانی پانی" میں کراہتا رہا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا، جیسے کٹی ہوئی چھاتیاں اور اہلی ہوئی انتڑیاں اور خون آلود چہرے — تمام ایک سبب کا ناگزیر نتیجہ تھے، اور جیسے ساری دنیا میں ایک میں ہی مظلوم ہوں — اور اگر مجھے پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو میں ایک آن میں ساری کائنات پر حاوی ہو جاؤں — اور ایک بہت اونچی چوٹی پر ایک بہت اونچا تخت بچھا کر ایک ایک انسان کو اپنے حضور بلاؤں اور اس کی کھوپڑی کو چٹھا کر اس کا گودا نگل جاؤں اور ہنتا جاؤں۔ اس کی پسلیاں توڑ کر اور اس کے دل کو نچوڑ کر اپنی ازلی و ابدی پیاس بجھاتا رہوں اور قبضے لگاتا رہوں — حتیٰ کہ اس دھرتی پر کوئی انسان باقی نہ

رہے۔۔۔ اور پھر میں اس زور سے چیخوں کہ بھیسپھڑے میرے حلق سے گوشت کے ریزوں کی پھوار بن کر نکل جائیں اور پھر میں اس چوٹی پر سے نیچے اندھیری کھاڑیوں میں کود جاؤں۔۔۔ اور مشیت ہاتھ ملتی رہ جائے اور ابلیس کو واپس آسمانوں پر بلا لیا جائے اور مٹی کے بت بنا کر ان میں پھڑ پھڑاتی ہوئی روحوں کو مقید کرنے کا کھیل پھر نہ دہرایا جائے۔

اور میں اس سوچ میں غرق یہاں مکئی کے ان بے بس پودوں میں گھرا ہو پڑا ہوں۔ مجھے گھونٹ بھر پانی کی تلاش ہے۔ بادلوں کی محبوبائیں کہیں دور چلا رہی ہیں۔ چمکتے ہوئے سبز پروں والی مکھی میرے حلق تک جا کر اور مایوس ہو کر پلٹ جاتی ہے۔ کیچڑ نے ایک کنجوس کی طرح اپنی نمی کو دبوچ رکھا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے مکئی کے جھکے ہوئے پودے اور اوپر اٹھے جا رہے ہیں۔۔۔ مجھے مکئی کے ان پتوں سے، اس کیچڑ سے، کسی بھولے بھٹکے انسان سے، آسمانوں سے، خدا سے صرف ایک گھونٹ پانی چاہیے۔۔۔ مجھے پانی کی تلاش ہے، مجھے ایک زندگی کی تلاش ہے مگر میری تلاش بے کار ہے، کیونکہ میں خدا کی محبوب ترین مخلوق ہوں۔۔۔ میں انسان ہوں۔



## نیا فریاد

گاؤں سے گزرتے ہوئے ایک درد مند مسافر نے چوپال پر حقہ پیتے

ہوئے کہا:

”اس وقت لاہور کی ٹھنڈی سڑک پر مسلمانوں کی لاشیں بچھا دی گئی ہیں اور ان پر سے سکھوں اور ہندوؤں کی موٹریں اور لاریاں گزر رہی ہیں، اور ان پر کودا اور ناچا جا رہا ہے اور لارنس باغ میں ایک بہت بڑی دیگ گاڑ دی گئی ہے جس میں تیل کڑکڑا رہا ہے اور شیر خوار مسلمان بچے تلے جا رہے ہیں۔ اور وہ لاہور کی بڑی مسجد ہے نا، اس کے چاروں میناروں پر ہنومان کے بت رکھ دیئے گئے ہیں اور ان بتوں کے پھرے دار بے شمار سکھ اور ہندو ہیں جن کے ہاتھوں میں بم اور بندوقیں ہیں اور ہونٹوں پر گالیاں ہیں اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ پچھلے جمعہ کی رات کو لاہور کے آسمان پر آگ بھڑکتی دیکھی گئی اور پھر یہ آگ ”اللہ“ کا لفظ بن کر غائب ہو گئی۔“

”اور مسلمان عورتیں؟“ ایک نوجوان نے دم بخود ہجوم کی نمائندگی

کی۔

”مسلمان عورتیں؟“ مسافر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ”اس بارے میں تم

نہ ہی پوچھتے تو بہتر تھا میرے دوست! اس بارے میں تو میں صرف یہ کہہ سکوں

گا کہ دنیا کے تمام مسلمان نوجوانوں کو اپنے منہ پر توتے کی کالک مل لینی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر اس نے پگڑی کے ایک پلو سے آنکھیں پونچھیں اور چوپال سے اتر گیا۔

دیر تک چوپال پر ایک المناک خاموشی طاری رہی۔ مبہوت چہرے رنگ بدلنے لگے، جمی ہوئی پتلیوں میں آگ بھڑکنے لگی اور ہونٹوں پر آنا "فانا" پیڑیاں ابھر آئیں۔ اچانک جعفر تن کر اٹھا اور گرجا "سوچ کیا رہے ہو بزدلو! اپنے بھائیوں کے خون اور اپنی بہنوں کی بے عزتی کا یہیں بدلہ لے لو۔ چلو، اٹھو، اٹھو۔"

اور کچھ دیر کے بعد گاؤں میں ایک ہلڑ مچ گیا۔ جہاں صرف دو چار تنوروں کا دھو آں اٹھ رہا تھا، وہاں جگہ جگہ الاؤ بھڑک اٹھے۔ جلتی ہوئی لکڑیاں چیخنے لگیں۔ بچے غیر مسلموں کی دکانیں لوٹنے لگے۔ بوڑھے چوپال اور مسجد کی چھت پر چڑھ کر گنتی میں مصروف ہو گئے۔ "اس وقت تیرہ جگہ آگ بھڑک رہی ہے۔" — عورتیں اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ کر موت کے خوف سے بھاگتے اور چیختے ہوئے غیر مسلموں کو دیکھنے اور مسکرانے لگیں اور نوجوان دیواریں پھاند پھاند کر اور دروازے توڑ توڑ کر گھروں کے اندر کودنے، چھترے بھونکنے، چھاتیاں نوچنے، آگ لگانے اور مال چرانے لگے۔ زندگی اور موت میں دوڑ جاری تھی، اور درد مند مسافر سرکاری ذخیرے کے ایک چشمے کے کنارے ایک درخت کے سائے میں لیٹا "ماہیا" گا رہا تھا۔

جعفر، جو الارا رام کے گھر سے خون آلود چھرا تھا، اور ریشم کے تھان

اٹھائے نکلا۔ چند قدم چلا، رک کر تھان گلی میں پٹخ دیے اور پھر پلٹ کر پکارا۔ "فقیرے! یہ کل آٹھ تھان ہیں، دو تمہارے اور چھ میرے۔ میری بیوی تک پہنچا دے اور اس سے کہنا کہ آج ہم مرنا کھائیں گے۔"

"— یہ پڑے ہیں تھان، میں ذرا سردار شکر سنگھ کے مزاج پوچھ آؤں۔"

قمقمے بلند ہوئے اور جعفر ایک تنگ گلی میں مڑ گیا جس کے سرے پر ایک مکان جل رہا تھا۔ ابلتے ہوئے دھوئیں سے چیخیں لپٹی ہوئی تھیں اور سردار شکر سنگھ نے جلتے ہوئے مکان کی چھت سے چھلانگ لگا کر اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑ لی تھی اور اپنی کھوپڑی کا بھیجا بکھیر دیا تھا۔ وہ شکر سنگھ کی لاش میں چھرا گھونپنے کو رکا ہی تھا کہ لمحہ مکان کی چھت سے آواز آئی — ”جعفر خاں!“

جعفر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک لڑکی منڈیر کی آڑ میں دبکی بیٹھی تھی۔ جعفر کو صرف اس کی آنکھیں نظر آرہی تھیں، لیکن وہ اسے پہچان گیا۔ چہرے والا ہاتھ پیچھے لے جا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے چہرے کے تنے ہوئے خطوط میں معصومیت کی نرمی آگئی۔ اس کی وحشت سے لبریز آنکھوں میں بھیگتی ہوئی رات کے ستاروں کی ٹھنڈک بھر گئی اور ہونٹ لرز اٹھے۔ — ”شانتی!“ وہ جیسے زیر لب بڑبڑایا — اور پھر تیزی سے بلند آواز میں بولنے لگا۔ ”شانتی، تم! اتر آؤ، تم میرے پاس آؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ تم شانتی ہو۔ آجاؤ، یہیں سے لٹک آؤ۔ میں تمہیں یوں محفوظ رکھوں گا جیسے ڈبیا میں موتی، آجاؤ۔“

”جعفر!“ — شانتی نے اپنے اندازِ نشست و گفتار کو بدلے بغیر کہا ”تمہارے چہرے پر خون جما ہوا ہے، اور تمہاری آستینیں سرخ ہو رہی ہیں اور وہ سامنے میرا تیا شکر سنگھ پڑا ہے جس نے ایک بار کبڈی کے میلے میں تمہیں اپنے کاندھوں پر بٹھالیا تھا اور بھاگتے ہوئے سارے میدان میں گھوما تھا۔ اور اس کا مکان —“

شانتی نے ایک بار کہیں پیچھے دیکھا اور بولی ”مجھے بھی ایک ماں نے جنا ہے جعفر، اور میں بھی ایک باپ کی بیٹی ہوں، میرے بھی دو ننھے ننھے بھائی اور ایک ذرا سی بہن ہے، میں بھی انسان ہوں — وہ سب اسباب کی کوٹھڑی میں ٹرنکوں پیچھے دبکے پڑے ہیں اور شاید گھٹ کر مر بھی چکے ہوں۔ اور

تمہارے بھائی ہمارا دروازہ توڑ رہے ہیں اور اندر پتھر پھینک رہے ہیں، اور میں یہاں کتنی دیر سے بیٹھی ہوں۔ میں تمہاری راہ تک رہی تھی۔ میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے۔ مجھے تم سے صرف یہ کہنا ہے کہ کیا مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہمارے گرو جی کی آمد پر دھرم سالہ کے لئے اپنی مسجد کی لائین بھیج دی تھی اور تم بھی مسلمان ہو جو سکھوں ہندوؤں پر صرف اس لئے چڑھ دوڑے ہو کہ وہ تمہارے خدا کو کسی دوسرے روپ میں دیکھتے ہیں، میں بڑی تسلی سے آہستہ آہستہ بول رہی ہوں، اس لئے کہ جو ہونے والا ہے وہ ضرور ہو گا۔ یہ میرے پاس بھی کرپان ہے اور جب ہمارے گھر کا دروازہ ٹوٹا تو اس کرپان سے میں اپنا سینہ پھاڑ لوں گی، لیکن مجھے تم سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ کیا تمہارے لئے یہ سب کچھ مناسب تھا؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم لوگوں کو جنت ایسے ہی کاموں کے بدلے ملتی ہے؟ اور کیا واہگو تمہیں معاف کر دیں گے؟

یہ پگھٹ کی رانی بول رہی تھی، یہ وہی تھی جس کی کانسی کی گاگر دھوپ میں چمکتی تھی تو جعفر کہا کرتا تھا۔ ”شانتی چاند اٹھائے لئے جا رہی ہے۔“ اور جب وہ چمکتا ہوا پانی گاگر میں بھرتی تھی تو جعفر کہتا تھا۔ ”شانتی چاند میں چاندنی بھر رہی ہے۔“ اور جب وہ گاگر اٹھائے چلتی تھی تو جعفر کہتا تھا ”کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شانتی ہمیشہ یوں ہی چلتی رہے اور میں اسے یوں ہی دیکھتا رہوں اور سورج قیامت تک یہیں جما رہے اور گاگر چمکتی رہے اور پانی اچھلتا رہے۔“

یہ وہی جادو گرنی تھی جس کو جعفر نے دو برس تک تقریباً ”ہر روز دیکھا، گھر سے بڑے بڑے نرم الفاظ سوچ کر پگھٹ والی گلی کے موڑ پر جا کے بیٹھ جاتا اور ان لفظوں کو دہراتا رہتا۔ لیکن جب شانتی ادھر سے گزرتی، اس حالت میں کہ ایک ہاتھ نے گاگر کو تھام رکھا ہوتا اور دوسرا ہاتھ دوپٹے کو سینے پر



سنوارتا رہتا، اور اس کی بھوؤں کے عین درمیان سلیٹی رنگ کی ایک بندیا اس کے گورے چہرے پر شفق میں گھلی ہوئی کرنیں دوڑا رہی ہوتی تو جعفر اٹھنے کی کوشش میں بیٹھا رہ جاتا اور بولنے کی کوشش میں اس کی زبان گنگ ہو جاتی، اور جب شانتی دوسری گلی میں غائب ہو جاتی جب بھی وہ اسی طرح بیٹھا رہتا۔ اور جب لوگ اسے ہر روز یوں بت کی طرح بیٹھا دیکھتے تو کہتے ”اول اول مرگی یونہی شروع ہوتی ہے۔“

جعفر کو شکایت تھی کہ شانتی نے ان دو برسوں میں اسے ایک بار بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ خوش تھا کہ شانتی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے گھونگھٹ نہیں نکالتی، اور اگرچہ اس کی نظریں کہیں دور جمی رہتی ہیں لیکن وہ جعفر کی نظروں کے لئے کوئی ڈھال تو استعمال نہیں کرتی تھی۔

اور اب وہی شانتی اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس سے باتیں کر رہی تھی، اسے شرمندہ کر رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ گاؤں والوں کو فساد پر اکساتے ہوئے اسے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ اسی گاؤں میں شانتی بھی رہتی ہے جس کا باپ بڑھاپے کی وجہ سے دکان پر نہیں بیٹھ سکتا اور جس کی ماں گاؤں کے بڑے بڑے گھروں میں کپڑے کے تھان اور گڑ کی گٹھڑیاں اٹھائے جاتی ہے اور یوں اس چلتی پھرتی دکان سے جو فائدہ ہوتا ہے اس سے شانتی اور اپنے دوسرے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے۔ اس نے یہ کیوں نہ سوچا کہ حضرت پیر دستگیر کے عرس پر شانتی کی ماں گاؤں کے بچوں میں مٹھائیاں بانٹتی ہے اور عاشورہ کے روز وہ شربت کا اتنا بڑا مٹکا مسجد میں بھیج دیتی ہے اور آخر اس نے یہ کیوں نہ دیکھا کہ شانتی نہ رہی تو سارا پگھٹ اجڑ جائے گا۔ گلیوں کے موڑ اجڑ جائیں گے، ساری دنیا اجڑ جائے گی!

وہ لپک کر آیا اور کود کر منڈیر کو اپنی گرفت میں جکڑنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا، پھر ایک ہزیمت خوردہ انسان کی طرح نہایت لجاجت سے کہنے لگا۔

”شانتی‘ نیچے آجاؤ‘ یہاں میرے کندھوں پر پاؤں رکھ کر اتر آؤ۔ میں تمہارے بعد تمہارے سارے گھر والوں کو بچالوں گا؛ بس ایک تم میرے پاس آجاؤ۔ آجاؤ۔ شانتی“

شانتی چپ چاپ ٹکٹکی باندھے اسے گھورتی جا رہی تھی۔ اور جب جعفر نے باہیں اوپر اٹھا کر ہاتھ پھیلا دیئے، اور دیر تک پھیلانے رکھے، جب بھی وہ اسے صرف گھورتی رہی، اور پھر پرلی گلی میں شور بلند ہوا۔ فساد یوں کا انبوه ناچتا چیختا بڑھا آ رہا تھا اور شانتی کے گھر کا دروازہ جس پر کنستروں کے ٹکڑے منڈھے ہوئے تھے، ٹوٹ کر گرنے ہی والا تھا۔ — ”میری کرپان“! شانتی نے پہلی بار اندازِ نشست کو بدلا۔ اور کرپان نکال لی۔!

جعفر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ”نہیں“۔ وہ ہیسپھروں کی پوری قوت سے چیخا۔ ”ایسا نہیں ہو گا۔ تم ایسا نہیں کرو گی — تم میرا انتظار کرو گی۔ تمہیں اپنا واسطہ تمہیں اپنے واہگرو کا واسطہ“! وہ گلی کے سرے پر نمودار ہوتے ہوئے انبوه کی طرف لپکا، ان کے آگے آگے دھما دھم ڈھول بج رہے تھے اور ہر طرف کلہاڑیاں، نیزے، برچھے اور چھرے چمک رہے تھے اور وہ شانتی کے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔

جعفر بے تحاشا بھاگتا ہوا آیا اور دونوں ڈھولوں کو اپنے چھروں سے پھاڑ ڈالا۔ شور اچانک تھم گیا۔ جعفر پھر بھاگا اور شانتی کے گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر جا پہنچا اور اچک کر دیوار پر بیٹھتے ہوئے وہ چلانے لگا ”میرے بھائیو! مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ مسافر اصل میں انگریز نے بھیجا تھا؛ اس کا پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ گاؤں گاؤں جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں زہر بھردیتا ہے۔ یہ انگریز کی چال ہے اور اب ہم اس کی چال میں نہیں آئیں گے۔ اگر یہ اس کی چال نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ذیلدار اور نمبردار اور کرسی نشین اور سفید پوش سب کے سب اپنی چوپالوں پر بیٹھے حقے کڑکڑا رہے ہیں اور پنڈلیاں دبوا

رہے ہیں اور ہم غریب سکھوں اور کمزور ہندوؤں کے سینوں میں چھرے گھونپ گھونپ کر اسلام کا نام بلند کر رہے ہیں۔ کیا اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ لاہور کا بدلہ اگر یہاں لیا گیا ہے تو کیا یہاں کا بدلہ دلی میں نہیں لے لیا جائے گا؟ اور پھر میرے بھائیو، یہاں وہ کونسا سکھ یا ہندو تھا جو ہماری شادیوں اور ہماری غمیوں میں شریک نہیں ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایک طرف اداس سکھوں کی ٹولی بھی ہوتی ہے؟ اور میت کو دفنانے کے بعد سکھ آتے ہیں اور نہایت ہمدردی سے کہتے ہیں ”مرحوم کی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے فاتحہ پڑھ دیجئے۔“ اور کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہماری عیدوں پر یہاں کی دھر مشالہ میں پرشاد بانٹا گیا ہے، اور کیا تم نہیں جانتے کہ اس گاؤں کے دونوں کنوئیں سکھوں نے کھدوائے ہیں، کیا تم نے بوڑھے پنساری ایشر سنگھ کو نہیں دیکھا کہ وہ غریب مسلمانوں کو مفت دوائیں دیتا ہے اور ہر نام سنگھ اپنے خرچ پر گاؤں کی گلیاں صاف کراتا اور کپتان کھرک سنگھ نے اس گاؤں کے دو تین سو نوجوانوں کو نوکریاں دلوائی ہیں اور اتنے ہی گھروں کو فاقوں سے بچایا ہے؟

مجمع پر سکوت طاری تھا، چند ایک لوگوں کے تو سر بھی جھک گئے تھے، اور دکانوں کو لوٹتے ہوئے بچے ریوڑیاں چبانے تک بھول گئے تھے۔

اچانک جعفر دیوار پر سے کودا اور ایک طرف بھاگتے ہوئے چلایا، ”گلی گلی میں بکھر جاؤ اور سکھوں اور ہندوؤں کو اپنے سینوں سے لگالو، انہیں دلا سے دو، ان سے پیار کرو اور اس گاؤں کو، اس پنجاب کو، اس دنیا کو اجڑنے سے بچا لو۔ آگ بجھاؤ، زخمیوں کے پٹیاں باندھو، اور اعلان کر دو کہ ہم اس گاؤں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ مٹا کے دم لیں گے۔ گلی گلی میں بکھر جاؤ۔“

اور پھر کچھ دیر کے بعد گاؤں سے سرگوشیوں کی بھنبھناہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ چند سفید ریش سکھ مسجد کی محراب کے پاس کھڑے

مسلمان بزرگوں سے باتیں کر رہے تھے اور جعفر جسے کرسی نشین ایسے بچے  
مسلمان نے ماں کی گالیاں دی تھیں اور اس سے ہل چھین لینے کی دھمکی دی  
تھی، دھر مشالہ کے چبوترے پر ننھے ننھے سکھ بچوں کو بہلا رہا تھا۔

چند دنوں میں سکھوں اور ہندوؤں نے اپنی دکانیں بھی کھول لیں اور  
پنگھٹ بھی آباد ہو گیا، اور کانسی کے چاندوں میں چاندنیاں بھی انڈیلی جانے  
لگیں اور بڑی گلی کے موڑ پر بیٹھے ہوئے جعفر کی مرگی کے قصے پھر سے تازہ ہو  
گئے۔ شانتی ایک ہاتھ سے گاگر تھامے اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹے کو سنوارتی  
کہیں دور دیکھتی ہوئی آئی اور جعفر اٹھنے کی کوشش میں بیٹھا ہی رہ گیا اور سلیٹی  
بندیانے شفق میں گھلی ہوئی کرنوں سے شانتی کے چہرے پر گلال چھڑک دیا۔

اور پھر ایک روز جب جعفر کسی دور کے گاؤں میں کبڈی کا مقابلہ  
دیکھنے کے بعد شام سے کچھ دیر پہلے اپنے گاؤں کو پلٹا اور پہاڑی درے سے گزر  
کر میدان میں آیا تو اسے سامنے کچھ دور اپنا گاؤں نظر آیا جس میں آج شاید  
اکٹھے بیس پچیس تنور بھڑک اٹھے تھے، اور گلیوں میں لوگ بھاگتے ہوئے نظر  
آ رہے تھے اور عورتیں چھتوں پر بیٹھی تھیں اور کتے بے تحاشا بھونک رہے  
تھے۔

ایک لمحے کے لئے تو وہ جم کر رہ گیا اور پھر ایک دم اس تیزی سے  
بھاگا کہ کنکر اس کی چپلوں کے نیچے چیخ چیخ اٹھے۔ اور جب وہ گاؤں کی پہلی گلی  
میں پہنچا تو اسے سکھوں کی ایک قطار نظر آئی، جن کے آگے بوڑھا پنساری  
ایشرنگھ تھا۔ وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا تھا اور قدم قدم پر ہتھم کر اپنی آنکھیں پونچھتا  
تھا، پلٹ کر دیکھتا تھا اور ریگنے لگتا تھا۔ جعفر کو دیکھتے ہی وہ بچوں کی طرح بلبلا  
اٹھا۔ ”جعفر، میرے بیٹے ہم کو لوٹ لیا گیا۔ ہمیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے  
اور ہماری بیٹیوں کو آپس میں بانٹا جا رہا ہے۔“

اور پھر سکھوں کی اس لمبی قطار نے جعفر جعفر کی رٹ لگا دی، اور

جعفر ایشرنگھ کے پاس تھم کر اسی طرح بھاگنے لگا، اور جب وہ قطار کے آخری سرے پر پہنچا تو کرسی نشین ہاتھ میں برچھا تھامے اس شان سے آرہا تھا جیسے ایک ذمے دار چرواہا ریوڑ ہانکے چراگا ہوں کو جا رہا ہے۔ جعفر کو دیکھتے ہی وہ گرجا ”آج تیرے انگریز کا بھیجا ہوا ایک اور مسافر آیا تھا جس نے ہمیں بتایا کہ“

”وہ بکو اس کرتا ہے“ جعفر چیخا۔ ”اور اگر وہ سچ بھی کہتا ہے تو بھی ہم ایسا نہیں کریں گے ہم مسلمان ہیں۔“

”تو پھر بکو اس کرنے لگا۔“ کرسی نشین پھر گرجا۔ اور گاؤں والوں نے اس کی ہم نوائی کی۔

”یہ کیا کم ہے۔“ کرسی نشین بولا کہ ہم ان سب کو زندہ سلامت قصبے میں پہنچا دیں گے۔“

اور وہ آگے بڑھ گیا۔

اور جعفر ایک کھنڈر کے پرنا لے کے نیچے کھڑا انہیں دیکھتا رہا لیکن یہ ایک عجیب بات تھی کہ ان میں ایک نوجوان بھی تو نہ تھا، یہ سب کے سب ادھیڑ عمر والے یا بوڑھے اور بہت سے بچے تھے جو اپنے صدیوں کے مہمانوں کو رخصت کرنے جا رہے تھے۔

جعفر پھر گاؤں کی طرف بھاگنے لگا اور جب وہ مسجد کے سامنے والے چوراہے پر پہنچا تو اسے گاؤں کے نوجوان نظر آئے جو عورتوں کی ایک قطار کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اور ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنوں میں شفق نے گھل کر ہر طرف گلال چھڑک دیئے تھے۔ اور پرندے واپس اپنے آشیانوں کو جا رہے تھے۔ اور مسجد کے صحن میں اگی ہوئی بیری کی آخری پھنگ پر ایک بھٹکا ہوا کوا رو رہا تھا۔ اور مشرق سے کانسی کی ایک گاگر ابھر رہی تھی۔

”شانتی۔“ جعفر کی دو برس کی جھجک غبارے کی طرح پھٹ گئی اور

بکھرے ہوئے بالوں، پھٹے ہوئے کپڑوں اور کہیں دور جی ہوئی آنکھوں والی شانتی نے پلکیں تک نہ جھپکیں۔

”شانتی۔“ جعفر نے اسے چھولیا، اس کا ہاتھ جھنجھوڑا، اور پھر پلٹ کر نوجوانوں کی طرف دیکھا جو ایک دم اس زور سے ہنسے کہ شانتی تک لرز گئی۔ ایک نوجوان ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لئے آیا اور جعفر کے ہاتھ کو نہایت نرمی سے شانتی کے کندھے پر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ”آپ ذرا ادھر دیوار سے لگ کر بیٹھ جائیے، یہ موتی ہم نے پایا ہے اور ہمارے حصے میں آیا ہے، سارا گاؤں گواہ ہے۔“

جعفر کے سارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، بجلی کی سی تیزی سے اس نے چہرا نکالا اور پاگلوں کی طرح چیخوں میں بولنے لگا ”کوئی چھو کر تو دیکھے شانتی کو۔۔۔ شانتی میری ہے۔۔۔ یہ برسوں سے میری ہے۔۔۔ شانتی کو کوئی نہیں لے سکتا، کسی ماں کے لال میں حوصلہ ہو تو میرے سامنے آئے۔“

پچاس ساٹھ نوجوانوں کے چہرے ایک ساتھ شفق میں شعلوں کی زبانیں بن کر چمکے اور جعفر کی آنکھوں کے سامنے ان گنت الاؤنا چنے لگے۔ ”فیصلہ ہو چکا ہے۔“ ایک نے جعفر کو ڈپٹ کر کہا، ”شانتی شیرے کو مل چکی ہے۔“

”شانتی کو کوئی نہیں لے سکتا۔“ ایک بار پھر اس کا جسم لرزا۔ نوجوان پھر ایک ساتھ ہنسے۔ ”ہٹ جاؤ ادھر۔“ شیرے نے اسے دھکا دیا، اور شانتی کی طرف بڑھا اور شانتی باہیں پھیلا کر جعفر کی طرف بڑھی اور جعفر ایک مسحور انسان کی طرح شانتی کی طرف بڑھا۔ مگر شیرا پھر بیچ میں حائل ہو گیا اور شانتی کو بازو سے کھینچ کر پرے لے جانے لگا۔

”شانتی تمہاری نہیں۔“ جعفر چلایا۔

”تمہاری بھی نہیں۔“ شیرا چلایا۔ ”مرگی تو نہیں ہو رہی تمہیں؟“

”شانتی کسی کی بھی نہیں۔“ جعفر نے نہایت سکون سے کہا ”شانتی نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ کسی کی بھی نہیں۔ شانتی کو کوئی نہیں لے سکتا، نہ تم، نہ میں، نہ کوئی اور۔“

اور پھر مرتی ہوئی شفق میں جعفر کا چہرہ ایک بجھتے ہوئے شعلے کی طرح لپکا اور شانتی کے پیٹ میں کروٹیں بدلتا ہوا، دوسری طرف سے نکل کر اپنی نوک کو زمین میں ڈبو کر رہ گیا۔ آسمان پر کانسی کی گاگر کو ایک بدلی نے کاٹ دیا تھا۔



## تسکین

یہ اُن دنوں کی بات ہے جب نئے نئے نویلے پاکستان میں ہر روز لاکھوں پناہ گزین داخل ہو رہے تھے اور حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لئے ”معززینِ شہر“ نے بھی قدم اٹھایا تھا۔ میدان میں میلوں تک انسانی ملبے کے ڈھیر بکھرے پڑے تھے۔ ابھرتے ہوئے سورج نے ان ڈھیروں کے سایوں کو دور تک پھیلا رکھا تھا اور شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ایثار پیشہ بڑے لوگ تعداد کا اندازہ لگا رہے تھے۔

”کوئی پون لاکھ ہوں گے“ ایک صاحب نے پوٹے سمیٹ کر آنکھوں کو دور بین بنا لیا۔

”پون لاکھ؟“ دوسرے صاحب نے پلٹ کر کہا۔ ”ہجوم کی تعداد کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے حضور! ڈیڑھ لاکھ کہیے۔“

”چلئے ڈیڑھ لاکھ سہی۔“ پہلے صاحب بولے اور مسئلہ حل ہو گیا۔  
 ”کتنی زبردست ٹریجڈی ہے“ راؤ صاحب ایک لمبی سانس لے کر خلا میں گھورنے لگے۔

”———— کتنی بڑی کیٹسٹرافی ہے کہ انسان ایک بار پھر جنت سے نکال دیا



گیا۔“

چوہدری صاحب جو راؤ صاحب کے ”ما تھان اعلیٰ“ کے ایک فرد معلوم ہوتے تھے یوں تڑپے جیسے کسی شعر کی داد دینے چلے ہیں۔ ”سبحان اللہ“ کیا بات پیدا کی ہے آپ نے۔“ انہوں نے بے بازو کی ایک کرسی کے بازو تلاش کرتے ہوئے کہا ”وطن ہی تو جنت ہے اس دنیا میں۔“

راؤ صاحب بچھے ہوئے سگار کو کرسی کے بازو پر رکھ کر بولے۔ ”اور اس کھیل میں اب کے بھی ایک شیطان ہی کا ہاتھ رہا“ اگرچہ شیطان نیا ہے۔“

چوہدری صاحب نے داد دینے کے انداز میں پہلو بدلا۔ ”واہ استعارہ کیا ہموار جا رہا ہے“ مگر — گستاخی معاف — ”اور وہ اٹھ کر سامنے بازوؤں والی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔“ ”مگر شیطان تو وہی پرانا ہے حضور“ صرف انسان بدلا ہے۔ برٹرنڈ رسل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان نے —“

اور میدان میں چیتھڑوں، گودڑوں کے گٹھوں کے آس پاس بکھرے ہوئے انسان نتھنوں اور آنکھوں میں گھستی ہوئی مکھیاں اڑا رہے تھے، اوپر چیلیں اڑ رہی تھیں اور نیچے چیونٹیاں رینگ رہی تھیں جیسے وہ انسانوں کے ان کھنڈروں کی سیاحی میں سرگرداں ہیں جن کے آس پاس ننھے بچے زمین پر لوٹ لوٹ کر اور گلابی ہاتھوں سے مٹی نوج نوج کر مم مم پکار رہے تھے۔ مائیں تنکوں اور جھانکڑوں کی آنچ پر دال ابال رہی تھیں۔ بوڑھی عورتوں کی آنکھیں کھردری چادروں کی مسلسل چارہ سازی سے چھل رہی تھیں۔ نوجوانوں کے چہروں پر جیسے شباب کا الاؤ بھڑک کر بچھ گیا تھا، اور بوڑھوں کی جھریوں میں زندگی نے بھٹک بھٹک کر دم توڑ دیا تھا۔

راؤ صاحب جنہوں نے بچھا ہوا سگار جلا لیا تھا کہہ رہے تھے ”برٹرنڈ رسل اچھا فلسفی ہے مگر اس کی ”ایڈیو جو ایلیٹی“ ابھر نہیں سکی۔ ارسطو سے لے کر رادھا کرشنن تک فلسفے کی جتنی تھیوریز پیش کی گئی ہیں وہ سب ان کے یہاں

معمولی سی تبدیلی کے ساتھ مل جاتی ہیں جیسے کوئی پھول کو گل اور پتھر کو سنگ کہہ دے!“

چوہدری صاحب کے تلوے میں جیسے فتیلہ جل اٹھا۔ تڑپ کر بولے ”حضور کا مطالعہ بے پناہ ہے۔ ویسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسل نے عوام کی ذہنیت کا خاصا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ان کی بھیڑ چال کی عادت کو جس منطقی تسلسل سے نمایاں کیا ہے وہ آج، اس وقت ان نووارد پناہ گزینوں کو دیکھ کر تو حرف بحرف سچ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی کوئی طریقہ ہے راؤ صاحب، کہ امرتسر پر مصیبت ٹوٹی اور حصار گوڑ گاؤں تک کے مسلمان، عورتیں چھوڑے حقے سنبھالے بھاگ نکلے۔ یعنی یہ بھی کوئی بات ہوئی! اور یہ سامنے پڑے ہیں پاکستان کے لئے ایک خوفناک سوالیہ نشان بن کر“

اور میں سوچنے لگا کہ راؤ صاحب اور چوہدری صاحب بھی تو پناہ گزین ہیں بیچارے، یہ بھی تو فلسفے کے پاکستان میں کسی ذہنی کیمپ کی تلاش میں ہیں۔ انہیں عوام کے خاموش احتجاج نے اس جہنم میں کیسے دھکیل دیا، جہاں نہ کوئی رسل ہے نہ کرشنن، بلکہ ہر طرف کسان ہیں جن کے پاس ہل نہیں، مزدور ہیں۔ جن کے پاس کدالیں نہیں یتیم ہیں اور بیوائیں اور زخمی اور بیمار، اور میدان ایسا ہے جس میں قدم رکھتے ہی ارسطو سے لے کر رسل تک سب فلسفی دم توڑ دیں کیونکہ یہاں سبب اور نتیجے کے ہیر پھیر اور اقلیدس کے خطوط کے تذکرے نہیں، یہاں تو لٹے پٹے انسان، بچے کھجے جسموں پر سے دھول جھاڑتے ہیں تو جسم کی کترنیں گرنے لگتی ہیں اور ہونٹوں کی پٹریوں کے کنارے خون آلود ہو رہے ہیں اور آنکھوں میں جیسے آندھیاں گھس گئی ہیں۔

ہم سب پر تکلف کوٹھیوں کو تاج کر محض جذبہ خدمت سے مجبور ہو کر یہاں آئے تھے کہ کیمپ کے مختلف فرائض ہمارے سپرد کئے جائیں۔ اور ہم اپنے نئے نویلے وطن کو کچھ سہارا دے سکیں۔ اور یہاں ثانی کے رنگوں اور کالر

کے ڈیزائن سے لے کر علم الکلام اور حیات بعد الممات تک پر بحثیں جاری تھیں۔ اور میدان پر چھائے ہوئے سناٹے میں جیسے کوئی پکار رہا تھا ”ہم دلاسوں کے بھکاری اور تسلیوں کے گداگر ہیں، ہمارے آنسو پونچھو، ہمیں بہلاؤ ہم سے باتیں کرو!“

”بھیا! میں نے پرلی طرف سے گزرتے ہوئے ایک پناہ گیر کو بلایا۔ وہ ٹھنک کر مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورنے لگا اور پھر وہیں سے بولا

”میں نے تو اپنا نام لکھوا دیا ہے، جی!“

”بات سنو۔“ میں نے نرمی سے کہا۔

وہ گھبرایا ہوا میرے قریب آگیا۔

”کہاں سے آئے ہو؟“ میں نے پوچھا۔

”جی میں نے یہ سب کچھ لکھوا دیا ہے۔“ وہ کچھ ایسے انداز سے بولا

جیسے میں اس کا وقت ضائع کرنے کا مرتکب ہو رہا ہوں۔

”تم تیز تیز جا رہے تھے اس لئے میں نے کہا شاید میرے لائق کوئی

خدمت ہو۔“ میں دراصل اپنے ذہن کے لئے ایک صدمہ تیار کر رہا تھا۔

اس کے چہرے پر رنگ دوڑ گیا مگر کچھ عجیب بھدا سا، جیسے مرجھائے

ہوئے گلاب کو گلابی رنگ میں ڈبو دیا جائے۔ بولا ”میرا ننھا بیمار ہے جی کوئی ڈاکٹر

مل جاتا تو دوالے لیتا۔ گاڑی میں پیسا رہا، یہاں شاید بہت پانی پی لیا ہے اس

نے۔“

”کیوں صاحب! میں نے ”کرسی نشینوں“ کو مخاطب کیا ”آپ لوگوں

میں ڈاکٹر ہے کوئی؟“ سب نے پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر

مجھے نکر نکر گھورنے لگے۔

”اس کا بچہ بیمار ہے“ میں نے راؤ صاحب کے تن و توش سے ان کی ذمہ دہانہ

حیثیت کا اندازہ لگا کر کہا۔

”کتنے ہی بچے بیمار ہوں گے۔“ وہ سگار کولبوں کے گوشے میں ٹھونس کر بولے۔ — ”آپ ایک ہی بچے کا ذکر سن کر کانپ گئے۔ یہاں تو مضبوط دل گردے سے کام چلے گا صاحب۔“

چودھری صاحب کرسی کے ایک بازو پر کہنی ٹیک کر مسکرانے لگے۔  
 ”یہاں تو ایک انار سو بیمار کیا ہزار لاکھ بیمار والا قصہ ہے صاحب۔ آپ کیوں ان کے غم میں گھلے جا رہے ہیں ڈیوٹیاں تقسیم ہونے دیجئے بیمار بچوں کی نگرانی آپ کے سپرد ہوئی تو ہمیں قطعی کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔ کیوں بھی ہو گا کسی کو اعتراض؟“

راؤ صاحب کا پیٹ اچھلا اور کھلے دہانے سے ایک قہقہہ آم کی گٹھلی کی طرح ٹپک پڑا۔ انہوں نے چودھری صاحب کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا اور میں نے چپ چاپ کھڑے ہوئے پناہ گیر سے کہا ”بے فکر رہو بھائی، ابھی بھجواتے ہیں کوئی ڈاکٹر، کہاں ہو تم؟“

مضمحل سے لہجے میں بولا۔ ”وہاں، دور، مغربی گوشے میں۔“

وہ چل دیا، اور میں نے محسوس کیا جیسے میں نے ایک بچے کو قتل کر دیا ہے۔ اچانک شامیانے میں ایک بزرگ داخل ہوئے۔ نہایت جابر قسم کے انسان معلوم ہو رہے تھے۔ بھوڑوں کے درمیان ایک شکن یوں چمٹی ہوئی جیسے چھرے کی نوک سے نہایت اہتمام سے تراشی گئی ہے۔ وہ سب لوگوں کو مختلف فرائض سپرد کرتے چلے آئے اور جب چودھری صاحب کے قریب پہنچے تو بولے۔ ”آپ بیمار بچوں کی فہرست بنائیے۔“ — اور جیسے چودھری صاحب کی کرسی کے بازو اچانک غائب ہو گئے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر بزرگ نے راؤ صاحب سے بات شروع کر رکھی تھی۔ ”آپ حاملہ عورتوں کی فہرست بنائیے۔“

”مگر مولانا، مجھے بتائے گا کون؟“ وہ سگار کو زمین پر پھینک کر بولے۔

”یہ ڈیوٹی کسی خاتون کے سپرد ہونی چاہیے۔“

”آپ مجھے بے ضرر انسان معلوم ہوتے ہیں۔“ بزرگ آگے بڑھ آئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے، جیسے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے۔ اور اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا نہیں چاہتے، بس مجبور ہیں۔

بزرگ میرے پاس آچکے تھے۔ ”آپ — آپ یوں کیجئے کہ پناہ گزینوں سے ان کے عزیزوں کے بارے میں پوچھئے کہ وہ کہاں تھے، کہاں رہ گئے اور ان کو کس رستے سے مدد پہنچائی جاسکتی ہے؟“

اور میں فرائض کی تقسیم کا تماشا دیکھنے کے بجائے کیمپ کے منتظمین سے کاغذوں کا ایک پلندہ لے کر انسانی کھنڈروں میں گھس گیا۔ فخر کے جذبات نے میری رفتار ضرورت سے زیادہ تیز کر دی تھی۔ ایک ایسا فرض میرے سپرد ہوا تھا۔ جس سے ہزاروں انسان بے آبروئی اور موت کے چنگل سے نجات پا سکتے تھے۔ میں بڑھتا چلا گیا کہ کہیں ایک سرے پر بیٹھ کر فردا فردا سب کو بلاؤں گا۔

ایک جگہ پر رک کر میں نے ایک پناہ گیر کو اپنی طرف بلایا۔ وہ ایک گٹھڑی کا سہارا لئے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے سہلا رہا تھا۔ میں نے اس کے عزیزوں کے بارے میں پوچھا تو اچانک وہ بچے کی طرح رونے لگا۔ ”وہ سب مر چکے ہیں میاں جی۔“ وہ ضبط کرنے کی کوشش میں جسم کا سارا ہوا اپنے چہرے پر لے آیا۔ ”یہ کُرتے پر نشان دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اور یہ، یہ مجھے میرے بیٹے کی انٹریوں کا ہار پہنایا گیا تھا“ اور وہ اوپر کے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر جھک گیا اور پھر بیٹھ گیا۔

میں نے بلند آواز میں کہا۔ ”ارے بھئی کسی کا کوئی عزیز پیچھے رہ گیا ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ انہیں مدد پہنچائی جاسکے۔“ اور اچانک چلا تے بلبلاتے لوگوں کے ایک جم غفیر نے مجھے اپنی داویلا میں جکڑ لیا۔ ”میری ماں — میرا بچہ

— میری بیٹی — میری بہن — میرا باپ — ” ایک  
مسلل بھنبھناہٹ تھی جو ہر لمحہ بڑھتی جاتی تھی۔ اور میں پنسل تولے، فرش پر  
حیران بیٹھا تھا۔

”میری ماں۔“ ہجوم میں سے کوئی لڑکا پچھڑی ہوئی کونج کی طرح  
پکارا۔ ”وہ مکی کے کھیت میں تھی۔“

رضاکاروں نے نہایت مشکل سے پناہ گزینوں کو ایک ایک کر کے  
میرے پاس آنے پر رضامند کیا۔ اور اب میری پنسل صفحوں پر صفحے سیاہ کرنے  
لگی۔

”میری بہن۔ فسادیوں نے خنجروں سے کپڑے پھاڑ دیئے تو مارے حیا  
کے اس نے دیوار سے سر پھوڑ لیا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ مری نہیں  
تھی میاں جی! وہ بے ہوشی میں بھی اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے یوں ہاتھ ہلاتی تھی  
جیسے چادر اوڑھ رہی ہے۔ وہ زندہ تھی، میری بہن زندہ تھی۔“

”میرا بھائی۔ حملہ ہوا تو اس نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور  
سگنل والوں کی کوٹھڑی میں سر کے بل جاگرا۔ اس کے بعد گاڑی آگے نکل آئی  
مگر وہ وہیں دبک گیا ہوگا۔ اس کوٹھڑی میں کوئی جائے تو مل جائے گا۔ وہ ضرور  
مل جائے گا۔ میرا دل کہتا ہے میرا ایمان کہتا ہے۔“

”جب ہم ماں بیٹا بھاگے آرہے تھے تو ادھر سے فسادیوں نے ہماری  
ٹولی پر بلہ بول دیا اور ہم مکی کے کھیت میں بھاگے آئے۔ جب ہم کھیت میں گھسے  
ہیں تو ایک دوسرے کو کھو بیٹھے۔ فسادیوں کے ڈر کے مارے میں چلا تک نہیں  
سکتا تھا بابو جی! شام کو میں رینگ کر مینڈ پر آیا تو فوج والے مجھے لاری میں بٹھا کر  
یہاں لے آئے۔ ان کے پیچھے فسادی تھے ورنہ وہ میری ماں کو ضرور  
ڈھونڈتے۔ اور بابو جی، مجھے خدا کی قسم، میری ماں مکی کے کھیت میں ہی تھی۔  
کوئی نہ مانے تو جا کر دیکھ لے۔ قرآن شریف لائیے، میں اسے سر پر رکھ کر کہہ

دوں گا کہ وہ مکی کے کھیت میں ہے، میری ماں مکی کے کھیت میں ہے۔“  
 ”وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مرجانا چاہتی تھی، اور وہ اسے بالوں اور  
 باہوں سے پکڑے گھیٹے لئے جا رہے تھے، نہر کی طرف، اور پھر گاڑی چلی آئی  
 تھی۔ وہ نہر کے آس پاس کے کسی گاؤں میں ہو گی۔ نہ ہوئی تو میری ناک کاٹ  
 لیجئے گا۔“

”میرا بچہ ——— وہ دودھ پی رہا تھا کہ فساد یوں نے اسے میری گود  
 سے نوچ کر مکان کی چھت پر ——— یوں ——— گیند کی طرح اچھال دیا،  
 لیکن وہ مرا نہیں ہو گا میاں جی، بچوں پر تو خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ زندہ ہو گا،  
 وہیں چھت پر پڑا انگوٹھا چوس رہا ہو گا۔ میرا بچہ میرا ننھا۔ میرا لال ———“  
 اور جب سورج مغربی افق سے چمٹی ہوئی دھند میں رنگ گیا تو میں  
 اٹھا۔

”پہلے یہ کانڈات پہنچا آؤں۔“ میں نے ہجوم سے کہا۔ اور پنسل کو بائیں ہاتھ  
 میں لینا چاہا مگر پنسل جیسے میری انگلیوں کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ اس کو کھینچنے  
 سے ایک ٹیس سی اٹھی اور میں پلندے کو سینے سے لگائے شامیانے کی طرف  
 لپکا۔ غیر مرنی چادریں اوڑھتی ہوئی بہنیں، سگنل کی کوٹھڑیوں میں دبکے ہوئے  
 بھائی مکی کے کھیتوں میں بھٹکتی ہوئی مائیں، پتھروں اور کانٹوں میں گھسیٹی جانے والی  
 بیویاں اور ویران چھتوں پر انگوٹھے چوستے ہوئے بچے، قطار اندر قطار میرے  
 سامنے ناچنے اچھلنے لگے اور میں بڑھتا چلا گیا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا اور ہر لمحے  
 کے ساتھ سینکڑوں معصوم زندگیاں چمٹی جا رہی تھی۔ سینے کو ٹتی ہوئی مائیں  
 اور بال نوچتی ہوئی بہنیں مجھے اپنی طرف بلا رہی تھیں اور میں بھاگتا جا رہا تھا اور  
 جب کیمپ پر جھپٹے کا پھیکا پن چھا گیا تو میں بزرگ کے خیمے میں فتح مندانہ انداز  
 میں داخل ہوا۔

”یہ ہیں ان کے عزیزوں کے ———“

”ذرا ٹھہریے!“ بزرگ کی شکن گہری ہو گئی۔  
 ”نہیں نہیں۔“ میں ہانگلوں کی طرح چلایا۔ ”پہلے میری بات سنئے۔  
 آپ کو پہلے میری بات سننا ہوگی۔“ میری آنکھوں میں جلتے ہوئے آنسو تیر  
 رہے تھے۔

”تھوڑی دیر ٹھہریے۔“ بزرگ نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا  
 اور پھر راؤ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔  
 ”یہاں کوئی عورت حاملہ نہیں۔“ راؤ صاحب بولے۔

”یہاں کوئی بچہ بیمار نہیں۔“ چودھری صاحب نے اپنی کارگزاری کی  
 رو داد پیش کی۔ اور میں چلایا۔ ”اور وہاں ہزاروں بچے سلگتی ہوئی چھتوں پر  
 پڑے بھن رہے ہیں اور سینکڑوں عورتوں کی کوکھ میں خنجر ڈبوئے جا رہے ہیں۔  
 اور مکئی کے کھیتوں میں دم توڑتی ہوئی بوڑھیاں کراہ رہی ہیں۔ اور بہنیں جن  
 کے بھائی مرچکے ہیں۔ اور بیویاں جن کے شوہر بھاگ آئے ہیں۔ وہاں ہماری  
 عصمت کو بالوں اور باہوں سے پکڑ کر گھیٹا جا رہا ہے۔ وہاں ہماری آبرو ننگ  
 دھڑنگ پڑی تڑپ رہی ہے۔ اور یہ ہے ان کی روداد۔ مولانا! ابھی ایک بہت  
 بڑے کانوائے کا انتظام کیجئے۔ فوج بھیجئے، پولیس بھیجئے، رضاکار بھیجئے۔ ابھی اسی  
 وقت، ورنہ ہمارے لاکھوں بھائی لٹ جائیں گے اور ہمارا قومی اثاثہ برباد ہو  
 جائے گا۔ مولانا مولانا! اور میں نے کانڈوں کا پلندہ بزرگ کے ہاتھوں  
 میں ٹھونس دیا۔ اور رومال سے آنکھیں پونچھنے لگا۔

اور چودھری صاحب بولے، برٹرنڈ رسل نے انسان کی جذباتیت کا  
 تجزیہ کرتے ہوئے ایک جگہ —!“

میں نے گرج کر کہا ”مولانا! فلسفے کے بجائے اس وقت ہمیں  
 کانوائے کی ضرورت ہے، فوراً“ انتظام فرمائیے — آپ کیا سوچ رہے  
 ہیں؟“



”میں سوچ رہا ہوں۔“ بزرگ کے ہونٹوں کے ایک گوشے میں ایک ہولناک سی مسکراہٹ پانی کے بلبلے کی طرح ابھر کر مٹ گئی۔ ”میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے۔ یہ پلندہ اپنے پاس رکھئے۔“

”مگر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ———“ میری آواز میں فریاد تھی اور

احتجاج تھا!

”جی ہاں۔“ مولانا نہایت اطمینان سے بول رہے تھے۔

”یوں نہ کیا جاتا تو یہ آپ کو ہر روز تنگ کرتے رہتے۔ یہ سب کچھ بے چاروں کی تسلی ہی کے لئے ہو رہا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں ان حالات میں کون جا سکتا ہے وہاں ——— خیر اب آپ کل بقیہ لوگوں کے عزیزوں کے بارے میں پوچھئے گا۔ تسلی ہوتی رہے گی بے چاروں کی۔“



## جب بادل اٹھے

جب اس نے سامنے پہاڑی پر بکھرے ہوئے گاؤں کو دیکھا تو اس کے خاکستری گھروندے اسے اجنبی سے معلوم ہوئے اور مانوس سے بھی - دور مغربی پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی میں پیوست سنہری سورج کی طرف دیکھ کر وہ مسکرایا۔ دہقان کاندھوں پر ہل رکھے پگڈنڈیوں پر سے ہوتے ہوئے بڑے راستے کی طرف آرہے تھے اور گاؤں کے تنوروں میں سے دھوئیں کے بہت سے مینار بلند ہو رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے ایک عجیب سا خیال آیا۔ کاش ان میناروں میں سیڑھیاں ہوتیں اور وہ لپک کر ایک مینار کی چوٹی پر جانکتا اور دھوئیں کے پردے سرکا کر شریر بچوں کی سی سیٹیاں بجاتا، تالیاں پیٹتا اور چلاتا۔ ”میں وہی ہوں دوستو! جس کے پہلو میں کرپان بھونک کر تم دلدل میں پھینک آئے تھے۔ وہی آج اس دودھیا مینار کی بلندی پر سے تمہیں پکا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ مزاج تو اچھے ہیں آپ کے؟“

مسکرا کر اس نے بھاری بھر کم بستر کو کاندھے پر سے اٹھا کر پیٹھ پر رکھ لیا، اور کپڑوں میں لپٹے ہوئے برتن کھڑکھڑاٹھے، سورج پہاڑوں میں ڈھلک گیا اور چڑیوں کا ایک غول فضا میں سے اتر کر اس کے سر پر ایک سنسناتی ہوئی قوس بناتا اوپر ابھر گیا، اور پھر ادھر سے ایک دہقان پکارا ”کہاں سے آئے ہو بھئی؟“

”ہندوستان سے۔“ اس نے بستر کو پھر سے کاندھے پر رکھ لیا۔

”پاجامے اور صورت سے مہاجرین لگتے ہو۔“ دہقان دونوں بیلوں کی د میں ایک ہاتھ میں تھام کر بولا۔

”مہاجر ہی ہوں۔“ اس نے فخر سے کہا، جیسے اس کے سر پر ریشم کی

پگڑی اور مرصع کلغی ہے اور جیسے دہقان لپک کر اس کے قدموں سے لپٹ جائے گا اور کہے گا ”میرے بزرگ! میرے بھائی! میرے دوست! تمہیں دشمنوں نے پیٹا ہے۔ کہاں کہاں زخمی ہیں تمہارے؟ لاؤ میں ان پر اپنے ہونٹ رکھ دوں اور ان میں بسا ہوا سارا درد چوس لوں۔ مجھے تمہارا انتظار تھا، کتنے برسوں سے مجھے تمہارا انتظار تھا“ — اور دہقان سچ مچ آگے بڑھا اور بولا:

”لاؤ بھیا! یہ بستر میں اٹھالوں؟“

”اور بیل؟“ اس نے شرمسار ہو کر پوچھا۔

”یہ اپنے گھر کا رستہ جانتے ہیں۔“ وہ بستر کو چھین کر اپنے کاندھے پر رکھتے ہوئے بولا ”یہ یہیں کے رہنے والے ہیں، یہ ہندوستان سے نہیں آئے۔“ دونوں زور سے ہنسے اور پھر دہقان بولا ”یہاں زمین ملی ہے یا دکان یا صرف مکان؟“

”زمین۔“

”وہاں کیا کچھ چھوڑ آئے ہو؟“

”زمین اور مکان اور ایک جوان بیٹی اور دو معصوم بچے اور —“

اس کی آواز بیٹھ گئی۔ ”اور بیوی؟“

”نہیں، بیوی تو سال پہلے چل بسی تھی۔“

”تو پھر اور کیا؟“

”اور — اور —“ وہ جھینپ کر مسکرانے لگا۔

دہقان رک کر اسے کچھ دیر تک گھورتا رہا، اور پھر زور سے قہقہہ لگا کر بولا ”معاف کرنا بھئی جھپٹے میں تمہارا چہرہ صاف نظر نہیں آیا، اس لئے تمہیں بوڑھا

سمجھ بیٹھا — اچھا تو تم یہ سب کچھ لٹا کر پاکستان پہنچے ہو!“

اس کے لبوں پر سے مسکراہٹ بھاپ کی طرح اڑ گئی۔ ”سب کچھ لٹا

کر۔“ اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا۔

”سودا منگا پڑا؟“ دہقان نے پوچھا۔

اور وہ فخر سے تن گیا۔ ”نہیں نہیں“ ان سب کے بدلے میں مجھے ایک وطن ملا اور یہ زمین ملی۔ یہ گاؤں اور یہ پہاڑیاں اور یہ چپ چاپ شام اور تم جیسے ساتھی۔ ان کی محبتیں، ان کی ہمدردیاں، ان کے پیار، ان کے تپاک۔ میں لٹا نہیں۔ میں تو ایسا آباد ہوا ہوں کہ اب کبھی اجڑنے کا خوف ہی نہیں۔“

دہقان خاموش چلتا رہا اور دونوں بیلوں کے درمیان الٹی بندھی ہوئی ہل زمین پر گھسٹی اور کنکروں سے بجاتی چلی گئی۔ کافی دیر کے بعد دہقان بستر کو دوسرے کاندھے پر رکھ کر بولا ”کلیجہ پک گیا ہے تم لوگوں کی مصیبتیں سنتے سنتے۔ تم مہاجرین لوگ کتنے پیاروں کی لاشیں اٹھائے پھرتے ہو اپنے دلوں میں! — ہا! — اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر پوچھا

”پہلے کبھی ہل چلایا ہے؟“

”زندگی ہل چلاتے ہی گزری ہے بھائی۔“ وہ دعوے سے بولا۔

اور دہقان نے پھر سے ایک زناٹے کا قہقہہ لگایا۔ ”اس لئے پوچھا ہے کہ یہاں جتنے مہاجرین آئے ہیں ان کی کچھ عجیب سی حالت ہے۔ مدرسے کے ایک استاد کو یہاں تین کھڑیاں ملی ہیں اور ایک میراٹی کو کپڑے کی دکان اور نمک مرچ بیچنے والے ایک دُبلے سے مہاجر کو پندرہ بیگھے زمین ملی ہے ایک پہاڑی ڈھلان پر۔ اور میں کہتا ہوں اگر وہ ہل چلانے کی ٹھانے تو وہ ہل نہیں چلائے گا“ ہل اُسے چلائے گا۔“

دونوں کے قہقہے دھڑاک سے ان کے بھیسپھڑوں سے اہل پڑے اور

کتوں کا ایک ہجوم گلی کے موڑ پر اکٹھا ہو کر ان کی مزاج پر سی کرنے لگا۔

”تمہارے ہاں کے گاؤں کی کون سی چیزیں مشہور ہیں؟“ دہقان نے پوچھا۔

”لڑکیوں کا لباس اور نوجوانوں کے گیت۔“ وہ کتوں سے بچنے کے لئے

دہقان کے پہلو میں آکر بولا۔

”اور ہمارے ہاں کے گاؤں کی بھی دو ہی چیزیں مشہور ہیں۔ گالیاں اور کتے!“

وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ”اور ہاں“ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا ”ایک اور چیز بھی ”گالیاں“ کتے اور جاگیردار۔“

”جاگیردار ہمارے ہاں کے بھی مشہور ہیں۔“ وہ پتھریلی گلی میں سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے بولا ”ہمارے ہاں کے جاگیرداروں نے تو فرعونوں“

دہقان نے اچانک جھک کر سرگوشی کی ”یہ چوپال ہے۔ جاگیردار بیٹھا حقہ پی رہا ہے۔ اس نے سن لیا تو تمہارے چمڑے کی جوتیاں بنوالے گا۔ پھر ہوں گی باتیں۔ کہاں ملو گے؟“

”مجھے تو جاگیردار کی چوپال پر ہی جانا ہے۔“ وہ بولا ”نائب تحصیلدار نے کہا تھا۔“

”تو بسم اللہ چلو۔“ اس نے بیلوں کو چمکار کر روک لیا اور چوپال پر جا کر بستر زمین پر بیٹھ دیا۔ برتن بچ اٹھے جیسے پکار رہے ہیں ”ہم مہاجرین ہیں۔“

”کون ہو بھئی؟“ جاگیردار نے حقے کی نال پر سے کہا۔

”مہاجرین بھائی ہے۔“ دہقان اس سے پہلے بول اٹھا۔

”بیٹھ جاؤ۔“ جاگیردار نے آواز حقے کی نے میں اگل دی اور پھر ایک

طویل کش سے جیسے مدارات کی یہ چھوڑی ہوئی ابجد پھر سے نکل لی۔ ”ہاں تو

بات لمبی ہوئی جا رہی ہے۔“ وہ بولا ”ابا نے یہ زمین ہر نام سنگھ کو انعام میں دے

دی اور ماں کے — ہر نام سنگھ نے اس سے وہ سونا نچوڑا، وہ سونا نچوڑا،

کہ آج بھی کوئی اس کے گھر کا کھنڈر کھودے تو سونے کی اینٹیں پائے۔ میں نے

صاحب ضلع کو لکھا ہے کہ اس زمین کا فیصلہ کرتے وقت وہ میرے حق کو

— ”جاگیردار اچانک رک گیا اور پھر گرج کر بولا ”تم چوپالیوں سے میں

نے ہزار بار کہا ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو بیچ میں بولنے والے کو اپنے بیٹے کے قاتل کے برابر سمجھتا ہوں، اور یہاں کھسر پھسر ہو رہی ہے ماں کے

\_\_\_\_\_

وہ لجاجت سے بولا ”صاحب! — میں اس بھائی سے —“

”صاحب!“ اب کے جاگیردار کی گرج میں طنز تھا — ”صاحب کی ماں کا — صاحب جاچکا جہاں سے آیا تھا، اب یہ صاحب و اب یہاں نہیں چلے گا۔ اب ہم پاکستان میں ہیں۔ اپنا ملک، اپنا راج، اپنا سکھ۔ یہاں اب صاحب کی جگہ ملک اور چوہدری اور میاں کا حکم چلتا ہے۔“

”معافی چاہتا ہوں۔“ وہ بولا ”میں اس بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اب اپنے بیل سنبھالو، کہیں دور نہ نکل جائیں۔“

”تو کیا آج سے پہلے تم ہی اس کے بیلوں کی دیکھ بھال کرتے رہے؟“ جاگیردار حقے کی نال چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ”بھئی یہ بات مجھے قطعی پسند نہیں کہ جو بھی مہاجرین آتا ہے، وہ پاکستان کو خالہ جان کا گھر سمجھتا ہے، اور حکم چلاتا ہے۔ گز بھر کی زبان ہوتی ہے سب کی، اور حالت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا نام تک نہیں آتا۔“

”میں دوبارہ معافی چاہتا ہوں حضور۔“ اس نے مری مری آواز میں کہا۔ ”نائب تحصیلدار صاحب نے پرچہ دیا تھا کہ آپ کو دکھاؤں اور آپ مجھے میری زمین دکھادیں۔“

”جی ہاں! آپ کا غلام ہی تو ہوں کہ اسی وقت زمین جا کے دکھاؤں گا تمہیں۔ — اونہ — پرچہ لاؤ۔“

ایک فوجی پشمن نے نارچ جلائی اور استاد جی، جنہیں اس گاؤں میں کھڈیاں ملی تھیں، پرچہ پڑھنے لگے۔ اور جب انہوں نے ہر نام سنگھ ولد بلرام سنگھ کے الفاظ پڑھے تو جاگیردار ہڑبڑا کر اٹھا۔ حقہ گر گیا اور چلم انکار بکھیرتی

لڑھکتی چلی گئی۔ ”نائب تحصیلدار کا باپ بھی آنکے تو میں ہر نام سنگھ کی زمین سے بالشت بھر بھی کسی کو نہ دوں! اور آخر کیوں دوں؟ ابا نے لہر میں آکر اتنی اچھی زمین اٹھا کے ہر نام سنگھ کے حوالے کر دی۔ ہر نام سنگھ دلی کو بھاگ گیا۔ اب اس کے بعد اگر سرکار یہ زمین مفت خوروں میں بانٹتی پھرے، تو اس کی مانے گا کون؟“

”ماننا ہی پڑے گا حضور!“ اس نے نہایت یقین سے کہا۔ ”یہ ہماری اپنی سرکار کا حکم ہے نا۔“

”اپنی سرکار! — اپنی سرکار!“ جاگیردار زمین پر زور زور سے پاؤں پٹخ رہا تھا۔ ”اپنی سرکار اٹھائے پھرتا ہے۔ سرکار تمہاری ہے تو ہماری بھی تو ہے۔ اور پھر سرکار کا کیا ہے، خضر حیات کے زمانے میں ہم نے لیگیوں کے بیسیوں جھنڈے پھاڑے تو سرکار نے ہمیں ایک مربع زمین دے دی۔ اب لیگ کا راج ہے تو مربع اسی طرح ہمارے پاس رہا اور لیگی اپنے گھروں میں پرانے جھنڈوں پر سے گرد جھاڑتے رہ گئے۔ اور کھانڈ کا ڈپو بھی ہمیں مل گیا۔ سرکار جب بھی ہماری تھی اب بھی ہماری ہے۔ اٹھائے پھرتا ہے سرکار کو۔ جاؤ نہیں ملے گی یہ زمین۔“ اس نے مروڑی ہوئی پرچی اس کے منہ پر دے ماری۔ ”اور پھر خدا جانے تم میراثی ہو یا جلا ہے، اور یہاں زمیندار بن کر آنکے ہو ماں کے“

”دیکھو جاگیردار جی۔“ وہ اٹھ کھڑا ہوا ”اگر آپ نے گالی دی تو میں بھی گالی دوں گا۔ ہم جلے بھنے آئے ہیں، اب اگر چاہیں تو جلا بھون بھی سکتے ہیں۔“

اور جاگیردار کے اندر جیسے کوئی آتشیں مادہ پھٹ پڑا۔ گالیوں کا ایک طومار لگاتا وہ آگے بڑھا اور اس کا بستر اٹھا کر نیچے گلی میں پٹخ دیا۔ وہ تپے ہوئے جسم اور کھولتے ہوئے خون کو لئے چوپال پر سے اترا، بستر کو گھسیٹ کر پیٹھ پر

ڈال لیا۔ اور جب اوپر جاگیردار تھوک ننگنے کے لئے رکا تو وہ بولا ”مجھے معلوم نہ تھا کہ پاکستان بھی اپنے اندر آپ ایسے پھوڑے چھپائے بیٹھا ہے۔ اور جاگیردار جی اگر پاکستان کو زندہ رہنا تو اسے یہ پھوڑے کاٹ کر پھینکنا پڑیں گے۔“

جاگیردار دگنی شدت سے ماؤں بہنوں اور ان کے جنسی اعضا کی گردان کرنے لگا اور وہ ایک گلی میں مڑ گیا۔ لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چوپال کی طرف جا رہے تھے اور جاگیردار کے غضب ناک ہونے کی وجوہ کے متعلق خیال آرائی کر رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی بستی کے خلاف کسی نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور ان کا سردار انہیں پکار رہا ہے — اور وہ نائب تحصیلدار کی دی ہوئی پرچی کو مٹھی میں دبائے بڑھتا چلا گیا۔ کتے اس کے پیچھے بھونکتے ہوئے آتے اور تھک کر اور دیں گرا کر واپس چلے جاتے۔ بچے اس کے پاجامے اور اونچی قمیص کی جھلک پا کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے اور لوٹ جاتے۔ اور پھر اچانک پیچھے سے کوئی بھاگتا ہوا آیا اور اس کی پیٹھ پر سے بستر اچک لیا۔ اب وہ تن کر پلٹا، جیسے چھیننے والے کی ہڈیوں تک کو چرمر کر کے رکھ دے گا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے وہ اکڑی ہوئی انگلیوں سے اس پر جھپٹا اور اس کے بازو کو جکڑ لیا مگر اچانک اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے سرگوشی سنائی دی، ”ڈرو نہیں، میں شیرا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ مجھے پہلے سے خوف تھا کہ یہ پرچہ جاگیردار کے تلوے میں فتیلہ بن کر جل اٹھے گا۔ میں نے بیل باندھ کر جاگیردار کا شور سنا تو گلی گلی میں بھاگتا پھرا تمہارے لئے، اور اب یہاں ملے ہو تم، جاگیردار کے مزارعوں کے محلے میں۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو تمہیں نوج کر دھردیں گے۔ تیز تیز قدم اٹھاؤ، اب تم میرے پاس رہو گے۔ اور کسی نے تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی ماں —“

وہ دہقان کے ساتھ اونچی نیچی ہرتی پھرتی گلیوں میں لپکا چلا گیا اور جب اس کے گھر میں پہنچا تو آن کی آن میں اس کی ساری برادری لٹھیں اور کلہاڑے



لئے اس کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ ماؤں بہنوں اور ان کے جنسی اعضا کی گردانیں یہاں بھی دہرائی گئیں اور دہقان نے اسے کھانا کھلا کر نہایت محبت سے نواڑ کے پلنگ پر سلا دیا۔

جب وہ صبح کو اٹھا تو صحن میں سنہری دھوپ پھیل رہی تھی اور ایک کونے میں دہقان کی بیوی دودھ بلو رہی تھی۔ ”بھائی کہاں ہے؟“ اس نے کہنی کے بل اٹھتے ہوئے پوچھا۔

وہ بلونے کو ڈھیلا چھوڑ کر بولی ”آپ کے لئے نیا ہل بنوانے گیا ہے بڑھئی کے ہاں — کہتا ہے، آج آپ اور وہ مل کر ہر نام سنگھ کے کھیت میں ہل جو تیں گے۔“

وہ مسکراتا ہوا بستر سے اٹھا تو وہ بولی ”ٹھہریئے، لسی پی لیجئے گا باہر جانے سے پہلے۔“

”باہر کون جاتا ہے بہن“ وہ ہنستے ہوئے بولا ”سکھوں سے بچ کے آیا ہوں، اب اپنے مسلمان بھائیوں سے کھوپڑی ادھر ڈوانے کا ارادہ نہیں میرا۔ چند دنوں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔“

”نہیں نہیں۔“ وہ بولی ”آپ بے فکر رہیے۔ جاگیر دار کے بہت سے مزارعے نماز کے بعد یہاں آئے تھے۔ کہہ گئے ہیں کہ جاگیر دار نے آپ کو ہل چلانے سے روکا تو ان کے برچھے ہوں گے اور جاگیر دار کی توند!“

”یہ کیسے ہو سکتا ہے؟“ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔

ادھر سے شیرا آنکلا۔ نئے ہل کو کونے میں رکھ کر وہ اس کی طرف آیا

اور بولا۔

”میں نے ہر دکان سے لوہے کے کوکے پوچھے، مگر کہیں سے نہیں ملے۔ ارادہ تھا کہ تمہارے ہل کی ہتھی پر کوکے لگا کر اسے بالکل نقرئی بنا دیتا، جو دھوپ میں چمکتے تو جاگیر دار کی آنکھیں چندھیا جاتیں۔“

”یہ میرا ہل ہے؟“ اس نے حیرت سے پوچھا۔  
 ”ہاں‘ یہ تمہارا ہی ہل ہے۔“ اس نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ”اور  
 جاگیردار کے مزارعوں نے کہا ہے کہ اگر —“  
 ”مجھے بہن بتا چکی ہے۔“ وہ بولا۔  
 ”لستی پی ہے؟“  
 ”پی لوں گا۔“  
 ”لستی پی لو تو چل کر کھیت میں ہل کی بسم اللہ کریں۔“  
 ”ابھی چلتے ہیں۔“  
 ”خوف کی کوئی بات نہیں۔“  
 ”نہیں‘ تم جو میرے ساتھ ہو۔“  
 ”پڑوس سے میں نے تمہارے لئے بیل مانگے ہیں دونوں کے لئے‘ وہ  
 لیتا آؤں۔“

”لے آؤ۔“

”حقہ پیو گے؟“

”پی لوں گا۔“

اور شیرے نے لپک کر کونے سے حقہ اٹھایا‘ تازہ پانی ڈالا‘ ہاتھوں کو  
 جھاڑ پونچھ کر تمباکو مسلا‘ اور پھر تمباکو سلگا کر اور حقہ اس کے پاس رکھ کر صحن  
 سے نکل گیا۔

اور وہ سوچنے لگا کہ اگر حکومت اسے ہر نام سنگھ کے کھیتوں کی بجائے  
 صرف شیرے کی محبت اور شفقت اور رفاقت دے دیتی‘ جب بھی وہ اس کا  
 ممنون ہوتا۔ یہ سونے کی طرح چمکیلی اور مکھن کی طرح نرم دوستی‘ جس کا خمیر  
 بہاروں اور ستاروں کے رنگ و نور کا مرکب ہے۔ رہتک سے لے کر واہگا تک  
 کی تمام بربادیاں‘ بے آبرویاں اور بے دست و پائیاں جو اس کے دماغ میں

گہری خراشوں کی طرح ایک ابدی کسک کے ساتھ نمایاں تھیں، مٹنے لگیں۔ جاگیردار کی کف آلود گالیوں نے ایک جنونی کی بڑکی صورت اختیار کر لی اور اس نے باہوں کو تان کر اور ٹانگوں کو پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی اور ایک طویل سانس کے ذریعے اس نے اپنی روح اور جسم میں سے سارا زہر نکال کر باہر پھینک دیا۔ ہلکا پھلکا ہو کر وہ حقے پر جھکا، مگر اب تک تمباکو بجھ چکا تھا۔ مسکرا کر وہ ہل کے پاس گیا اور اس پر یوں ہاتھ پھیرا جیسے ہل متاثر ہو کر اپنی دم ہلانے لگے گا۔ پلٹا تو دہقان کی بیوی لسی کا گلاس لئے کھڑی تھی۔ وہ پی چکا تو صحن میں دو بیل داخل ہوئے جن کے کھروں کی دھمک سے جیسے صحن چٹخ جائے گا۔

”کیسی جوڑی ہے؟“ دہقان نے مسکرا کر پوچھا۔

”طوفان ہے۔“

”میں چاہتا ہوں، ذرا جاگیردار کو پتہ تو چلے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔“

اس نے کچھ کہنا چاہا مگر فرط مسرت سے اس کی آواز گھٹ گئی اور وہ جو آٹھا کر بیلوں کی طرف بدھا۔ ادھر چھپر کے تلے سے دہقان اپنی جوڑی نکال لایا۔ طرفین زور زور سے ڈکرائے اور صحن میں بچوں کا ایک ہجوم ہو گیا۔ ہل کاندھوں پر رکھے مشرق و مغرب کے یہ دو دہقان بیل لئے گلی میں آئے اور جب چوپال کے قریب سے گزرے تو جاگیردار، نائب تحصیلدار کی اچانک آمد پر مرغے ذبح کرا رہا تھا۔ اس نے خون آلود آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر مرغوں کو ذبح کرتے ہوئے موچی کو ماں کی گالی دے کر بولا۔ ”ابے چھری چلا اور قصہ پاک کر۔ چھری اٹھا کر یوں کلام پڑھنے لگتا ہے، جیسے سارا قرآن مجید ختم کر کے دم لے گا، ماں کا۔“

اور ایک تڑپتا ہوا نیم بسمل مرغا چوپال پر سے اچھل کر نیچے گلی میں خون اور خاک اڑانے لگا۔

ہر نام سنگھ کے کھیت ہتھیلی کی طرح صاف تھے۔ آن کی آن میں

دونوں نے کھیتوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ نئی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو سے ہوا بو جھل ہو کر جھومنے لگی، اور جب سائے مشرق کی طرف ریگنے تو دہقان کی بیوی کھانا لے کر آگئی۔ گندم اور باجرے کی روٹیاں، مکھن اور لسی، اچار اور پیر!

اور جب وہ فاتحانہ شان سے گاؤں کو پلٹے تو راستے میں انہیں چوکیدار ملا۔ نائب تحصیلدار نے اسے چوپال پر بلایا تھا۔ — دونوں نے چوپال کا رخ کیا اور ہانپتے ہوئے بیلوں کو بھری چوپال کے سامنے روک کر اس نے نائب تحصیلدار کو سلام کیا اور ایک رجسٹر پر انگوٹھا لگا کر اور جاگیردار پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر وہ چوپال سے اتر آیا اور دونوں بیل ہانکتے گلی میں مڑ گئے اور حیرت زدہ دہقان دیر تک ان کے بارے میں سرگوشیاں کرتے رہے، اور جاگیردار دیر تک جی ہی جی میں اپنے آبا کو کوستا رہا جس نے لہریں آکر زمین ہر نام سنگھ کے حوالے کر دی تھی ”مگر خیر“ دیکھا جائے گا۔ ” موچھوں کی نوکیں مروڑتے ہوئے اس کے انداز پکار پکار کر کہتے۔

اور ادھر ہر نام سنگھ کے کھیتوں میں چند دنوں کے بعد باجرے اور جوار کے ذرا ذرا سے پودے جھانکنے لگے۔ ہر طرف مچھل سی بچھ گئی۔ لوگ بھیڑوں بکریوں اور ڈھور ڈنگروں کو ان کھیتوں سے بچا کر لے جاتے اور کہتے۔ ” مہاجرین کی فصل ہے، ایک تنکا تک حرام ہے تم پر۔ ”

کبھی کبھی جاگیردار ان پہاڑوں پر تیتروں کا شکار کھیلنے آتا جن کے قدموں میں اس کے کھلے کھیتوں سے ملحق ہر نام سنگھ کے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ وہ دیر تک اپنی ایک موچھ کا سرادانتوں میں دبائے سوچتا رہتا، اور پھر ہوا میں فار کر کے زور زور سے ہنستا ہوا اپنے ساتھیوں کی پیٹھیں ٹھونکتا پرلی طرف اتر جاتا۔

ایک روز وہ تڑکے اپنے کھیتوں میں آیا تو بہت سی بھینسیں اور گائیں

فصل کے نئے نئے خوشوں پر دعوت اڑا رہی تھیں۔ وحشت زدہ ہو کر وہ ان پر پل پڑا اور انہیں بھگاتا ہوا بڑے راستے پر لے آیا۔ جہاں شیر اپنے کھیتوں کی مینڈوں پر سے گھاس کاٹ رہا تھا۔

”تمہارے کھیت میں تھیں یہ سب کی سب؟“ اس نے درانتی سے

اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔

”ہاں۔“ اس کی آواز میں فریاد تھی۔ ”جہاں جہاں منہ مارا ہے چٹیل

کر کے رکھ دیا ہے کھیت کو۔“

”تو انہیں کہاں لئے جا رہے ہو؟“

”کہیں نہیں۔ یہیں بڑے راستے پر چھوڑ دوں گا۔“

”تھانے کیوں نہیں جاتے؟“

”تھانے؟“

”ہاں ہاں۔ ان کو کانچی ہاؤس میں بند کر آؤ۔“

”کس کی ہیں یہ؟“

”جاگیردار کی۔“

”جاگیردار کی؟ — تھانے کا راستہ بتاؤ۔“

دونوں چلتے ہیں۔

اور وہ بھینسوں اور گایوں کو ہنکاتے دو تین میل دور قصبے میں آئے

اور انہیں کانچی ہاؤس! میں بند کر دیا۔

علاقے بھر میں ایک ہلڑ سا مچ گیا، اتنے بڑے جاگیردار کے مویشی اور

کانچی ہاؤس میں جیسے جیل خانے صرف غریبوں کے لئے اور کانچی ہاؤس صرف

غریبوں کے مویشیوں ہی کے لئے تو بنے ہیں! — اور جب وہ دونوں گاؤں

میں پہنچے اور جاگیردار کے مویشیوں کی خبر سنائی تو جاگیردار کے مزارعے بھاگے

بھاگے آئے اور ان کو مبارک بادیں دیں، اور کہا ”کیوں بھئی“ جاگیردار کی

زمینیں کیا آسمان سے اتری ہیں، اور ہمارے تمہارے کھیت چوراہے ہیں کیا، کہ جو بھینس گائے بھٹکے یہیں آکر دم لے۔ ایسا سبق پڑھایا ہے تم نے جاگیردار کو کہ اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کر جائے گا۔ ہاتھ ملاؤ۔“

سارا گاؤں حیران تھا کہ آخر جاگیردار نے ایسی زبردست ہتک پر چپ کیوں سادھ لی ہے۔ یہ وہی جاگیردار تو ہے جس نے الیکشن کے زمانے میں خضر حیات کی آمد پر جب سارے گاؤں کو ایک سنہری دروازہ کھڑا کرنے کو کہا تھا اور چند نوجوانوں نے انکار کر دیا تھا تو اس نے انہیں فوراً "تھانے بھیج دیا اور تھانیدار کو کہلا بھیجا کہ ان پر کوئی سامقدمہ چلا دو۔ یہ کم بخت پاکستان کے حق میں ہیں۔ اور پھر جب بیٹے کی شادی پر ایک غریب گڈریئے کا پرنا لہ کجاوے کے ساتھ الجھا چلا آیا تھا، اور گڈریئے نے نیا پرنا لہ مانگا تھا تو دوسرے روز صبح کو گڈریئے کی ساری بھیڑیں باڑے میں ڈھیر پڑی تھیں۔ یہی جاگیردار اب ایک منحنی سے مہاجر سے کیسے دب گیا؟

”کوئی طوفان آنے والا ہے۔“ شیرا مہاجر سے کہتا۔

اور وہ بے پروائی سے ہنس کر جواب دیتا ”ہم نے لہو کے سیلاب میں کشتیاں چلائی ہیں بھئی۔ ہم اس جاگیردار کو کب خاطر میں لاتے ہیں۔ اب تو پاکستان بن چکا ہے اور اب سب جاگیریں ہم لوگوں میں بٹ جانے والی ہیں۔“

”ہم لوگوں میں بٹ جانے والی ہیں جاگیریں!“ شیرا حیران ہو کر کہتا۔

اور تعجب اور مسرت کے سیلابی جذبات سے وہ گھگھیانے لگتا ”یعنی۔۔۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ۔۔۔ جاگیردار کی جاگیر۔۔۔ جاگیردار کی جاگیر نہیں رہے گی؟“

”آٹار تو ایسے ہی ہیں۔“ وہ کہتا ”اور شاید یہی طوفان ہے جو آنے

والا ہے۔“

”بھئی ایسے طوفان کے صدقے جاؤں۔“ دہقان حقے کا بھرپور کش لگا

کر کہتا، اور بیل ڈکرا کر اس کا ساتھ دیتے۔

ساون کے ابتدائی دنوں میں معمولی سی بارش سے دہقان اس قابل ہوئے تھے کہ جوار باجرہ بوسکیں۔ اس کے بعد آسمان چٹیل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ سارا ساون بادلوں کی راہ تکتے گزر گیا۔ مغربی پربت پر سے کوئی بدلی اٹھتی بھی تو چوٹی سے چمٹ کر رہ جاتی۔ صبح کو وہ چوٹی سے اتر کر نشیب کا رخ کرتی اور پربت کے قدموں میں لیٹی ہوئی جھیل میں ڈوب کر کھو جاتی۔ 'منتیں مانی گئیں' مزاروں پر چراغ جلائے گئے اور قبرستان کے درختوں کی ٹہنیاں سرخ اور سبز دھجیوں سے پٹ گئیں۔ پیر جی نے ہوا کے رخ پر ایک شاداب درخت سے تعویذ بھی لٹکایا اور کنکروں پر دم کر کے انہیں کنوؤں میں بھی پھینکا، مگر بادل عنقاہی رہے۔ فصلوں میں بچھی ہوئی مٹھل پر گرد سی جمنے لگی اور کونپلوں کی نوکیں سنہری ہونے لگیں۔ اور اب بھادوں کی آخری تاریخیں تھیں۔ شیرا اپنے صحن کے سرے پر بیٹھا بچوں میں گھنگھنیاں بانٹ رہا تھا، اور مہاجر تسبیح پر کوئی وظیفہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک کہیں دور سے دبی دبی گرج سنائی دی۔ ایک دم سارا گاؤں چونک کر اٹھا، اور گلیوں اور چھتوں پر جمع ہو گیا۔ شیرے کو دوسری طرف متوجہ پا کر بچوں نے گھنگھنیوں کے دیگچے پر ہلہ بول دیا اور مہاجر تسبیح کو پلنگ کے پائے سے لٹکاتا اچک کر دیوار پر کھڑا ہو گیا۔

”بادل اتر سے اٹھا ہے۔“ وہ خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔

تو پھر کدال سنبھالو۔“ دہقان بچوں کے جھرمٹ میں سے دیگچہ کھینچتے

ہوئے بولا۔

”تمہارے کھیتوں میں تو پہاڑ سے اتنا پانی آئے گا کہ باجرہ گل کر ہی نہ

رہ جائے۔۔۔ کہاں ہے بادل؟“ اور وہ بھی دیوار پر آ گیا۔

دور اتری پہاڑیوں پر ہلکی ہلکی بجلی چمک رہی تھی، اور ہوا میں خنکی سی

ریج رہی تھی۔

”بادل ادھر ہی آرہا ہے۔“ شیرا چکا۔

”نہیں“ پڑوس کی چھت سے ایک بوڑھا بولا ”وہیں رک گیا ہے۔“

”تیرے منہ میں انگارہ۔“ شیرے نے جل کر کہا۔

”اور تیرے منہ میں مکھانے ——— صرف اگر بادل یہاں تک

آجائے۔“

”گواہ رہنا بھائیو۔“ شیرے نے چلا کر سارے محلے کو مخاطب کیا ”چچا

نے مکھانوں کا وعدہ کیا ہے۔“

دور دور سے قمقموں کی آوازیں آئیں۔ اور جب یہ طوفان رکا تو

اچانک بوڑھا ماتھے پا ہاتھ مار کر پکار اٹھا۔ ”ہائے رے نصیب! میں تو شرط ہار

گیا۔ بادل تو ادھر ہی آرہے ہیں۔“ اور پھر اس نے تہہ کے کونے سے اٹھنی

نکال کر شیرے کے منہ پر دے ماری۔

”پھول ہے پھول۔“ دہقان قمقمے لگاتا، تالیاں پیٹتا اٹھنی کے لئے نیچے

گلی میں کود گیا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد دھوپ غائب ہو گئی۔ درختوں کی

شہنیاں جاگ اٹھیں، سبزے کا رنگ نکھر آیا، اور کھرا تر کر جیسے دالانوں میں

ناچنے لگی۔

”کد الیں اٹھاؤ۔“ شیرا چلایا۔ پوربی کونے میں رکھی ہیں۔“

وہ اندر گیا اور کد الیں اٹھالایا؛ پاجامہ گھٹنوں تک چڑھالیا اور آستینیں

اڑس لیں۔ اوپر سے بادل دھاڑ کر پھٹا اور جلی ہوئی مٹی نے خوشبو کے طوفان

اچھال دیئے۔ ننگ دھڑنگ بچے گلیوں میں بھاگنے لگے۔ باڑوں میں بھیڑیں

بکریاں ممیا اٹھیں۔ ہر گھر میں اٹھا پٹنخ شروع ہو گئی اور دہقان کد الیں سنبھالے

بھاگتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اور چھینٹے اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس

سے گزرنے لگے۔

وہ دونوں بھاگتے ہوئے بڑے راستے پر آئے۔ شیرے نے اپنے کھیت



کارخ کیا اور وہ اپنے کھیت کی طرف لپکا۔ موسلا دھار مینہ برس رہا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا تو شیرے کو گنجان بوندوں نے چھپا لیا۔ گرج اور چمک اور چھاجوں پانی۔ پگڈنڈیاں ندیاں بن گئی تھیں اور ندیاں اینڈ اینڈ کر دوڑتی پھرتی تھیں، اور وہ کدال سنبھالے بھاگتا گیا۔ سب کھیت تالابوں میں بدل چکے تھے صرف مینڈوں کے حاشیے نمایاں تھے۔ مینڈوں پر ہوتا ہوا جب وہ اپنے کھیت کی مینڈ پر پہنچا تو اچانک دم بخود ہو کر رک گیا، اور کدال اس کے ڈھیلے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ اس کے کھیت میں جگہ جگہ پانی رینگ رہا تھا، مگر وہ تالاب والی کیفیت نہیں تھی ”میرے حصے کا پانی کہاں جا رہا ہے؟“ اس کی حیران آنکھوں نے پہلے تو جھکی ہوئی گھٹا سے اور پھر ملحقہ پہاڑ سے اور پھر خود کھیتوں سے پوچھا۔ اور کچھ دیر تک بت کی طرح کھڑا رہ کر اس نے کدال اٹھا کر کاندھے پر دھری۔ ”آخر میرے کھیتوں کا پانی کہاں غرق ہو رہا ہے؟“ اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور پہاڑ کی طرف بڑھا۔ چوٹی پر جا کر اس نے دیکھا کہ اُتری افق پر بادل چھٹ رہا تھا۔ دیوانہ وار اس نے نیچے نظریں دوڑائیں۔ سارے پہاڑ کا پانی ایک مصنوعی ندی کی شکل میں ایک قوس کی صورت اختیار کرتا نیچے جا رہا تھا۔

وہ غیر معمولی تیزی سے مصنوعی نالی کے کنارے کنارے نشیب کی طرف بھاگا اور جب رکا تو وہ جاگیردار کے وسیع کھیتوں کے کنارے کھڑا تھا اور سارے پہاڑ کا پانی جاگیردار کے کھیت نکلے جا رہے تھے۔ پہلی بار اس کے منہ سے جاگیردار کے لئے گالی نکلی اور پھر کچھ اس تیزی سے کدال چلائی کہ آن کی آن میں پہاڑی پانی کے آدھے حصے نے اس کے کھیتوں کا رخ اختیار کر لیا۔

ایک گرجدار قہقہہ لگا کر اس نے کدال ایک طرف پھینک دی اور اچک کر ایک چٹان پر جا بیٹھا۔ بارش تھمنے لگی تھی، مگر پہاڑی پانی کی شدت بدستور تھی۔ جلد ہی اس کے کھیتوں کا نصف حصہ سیراب ہو گیا اور ابھی پانی

بڑھ رہا تھا اور مصنوعی نالیاں گونج رہی تھیں۔

بارش تھم گئی، کہیں کہیں دھوپ کے دھبے بھی نمایاں ہونے لگے تھے۔ مگر پہاڑی نالیاں بارش کے بعد ہی تو لہر میں آتی ہیں، وہ بدستور گرج رہی تھیں۔ اور وہ اسی چٹان پر بیٹھا سامنے پہاڑی پر بکھرے ہوئے گاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے خاکستری گھروندے دھل جانے کے بعد اجنبی سے معلوم ہو رہے تھے اور مانوس سے بھی۔ اور پھر وہ دور مغربی پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی میں پیوست سنہری سورج کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ دہقان کاندھوں پر کدالیں رکھے پگڈنڈیوں پر سے ہوتے ہوئے بڑے راستے کی طرف آرہے تھے، اور گاؤں کے تنوروں میں سے دھوئیں کے بہت سے مینار بلند ہو رہے تھے۔ زندگی میں دوسری بار اسے عجیب سا خیال آیا۔ کاش ان میناروں میں سیڑھیاں ہوتیں اور وہ لپک کر ایک مینار کی چوٹی پر جا نکلتا اور اور دھوئیں کے پردے سرکا کر شریر بچوں کی سی سیٹیاں بجاتا اور تالیاں پیٹتا اور چلاتا ”میں وہی ہوں جاگیردار جی! جس کو اپنے چوپال پر سے دھتکار دیا تھا۔ وہی آج اس دودھیا مینار کی بلندی پر سے آپ کو پکار رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ مزاج تو اچھے ہیں آپ کے؟“

اور اس نے فاتحانہ قہقہہ لگا کر کئی ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ سے اترتے ہوئے جاگیردار سے پوچھا ”کہئے“ مزاج تو اچھے ہیں آپ کے؟“

جاگیردار کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر وہ کدال اٹھانے کے لئے چٹان پر سے کودا مگر جاگیردار کے ساتھیوں نے جھپٹ کر اسے دبوج لیا اور جاگیردار نے بڑھ کر اور اس کی ماں کو یاد کر کے اس کی پسلیوں میں دو تین گھونسے جما دیئے۔ وہ بل کھا کر گرا تو اس کے پیٹ پر زور سے ٹھوکر لگائی۔ اور پھر ایک من چلے نے اس کی ناک پر پتھر کھینچ مارا۔ وحشیوں کی طرح اس نے اُدھڑے ہوئے گالوں اور پھٹی ہوئی ناک کو اپنی اکڑی ہوئی انگلیوں سے نوج ڈالا اور پھر اس کا

خون آلود ہاتھ ڈھیلا پڑ کر ایک پتھر پر جاگرا اور چڑیوں کا ایک غول فضا میں سے اتر کر اس کے سر پر ایک سنساتی قوس بناتا اوپر ابھر گیا۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو صاف آسمان پر چاند اور ستارے چمک رہے تھے اور ہر طرف مینڈکوں نے شورِ محشر بپا کر رکھا تھا۔

وہ کچھ دیر تک چپ چاپ لیٹا چاند اور ستاروں کو دیکھتا رہا اور مینڈکوں کا شور سنتا رہا، اور پھر اچانک ہڑبڑا کر اٹھا مگر تیوراً کر بیٹھ گیا۔ اس کی ناک سے بہتا ہوا خون اس کے ہونٹوں اور ٹھوڑی پر سے ہوتا اس کی قمیص میں جذب ہوتا رہا۔۔۔ اور لبریز کھیتوں میں چاند نہا رہا تھا۔۔۔ اور ستارے ڈبکیاں لگا رہے تھے۔۔۔ اور ہوا جیسے نمناک ریشمی چادریں فضا میں لہراتی پھرتی تھی۔۔۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی کدال غائب تھی۔

لپک کر وہ پہاڑی نالے کے پاس آیا۔ تھوڑا تھوڑا پانی اب بھی جاگیردار کے کھیتوں کی طرف بہا جا رہا تھا۔ کنکروں کا ایک ڈھیر لگا کر اس نے پانی کی دھار کا رخ بدل دیا۔۔۔ ”ادھر آؤ۔“ وہ زخمی انگلیوں سے پتھریلی زمین کو کریدتا ہوا چمکتی ہوئی دھار کو بلانے لگا۔ ”اس طرف آؤ۔ ان کھیتوں میں کسانوں کی لاشیں اگتی ہیں۔ ادھر ان کھیتوں میں آؤ جن کے بوتے پر کسان زندہ ہے، انسان زندہ ہے، پاکستان زندہ ہے۔۔۔ ادھر آؤ۔“

وہ ناک سے ٹپکتے ہوئے لہو کو آستین سے پونچھتا اور انگلیوں کی پوروں سے رستے ہوئے خون کو پتھروں پر ملتا چلا گیا۔ ”ادھر میرے کھیت میں آؤ، اور نورے کے کھیت میں، اور بیگ کے کھیت میں، اور نواز کے کھیت میں، اور شیرے کے کھیت میں اور۔۔۔“

اور دور چاندنی سے دھلی ہوئی پہاڑی پر سے شیرا ”بھیا! او بھیا!“ پکارتا ہوا پکا آ رہا تھا۔



## سپاہی بیٹا

یہ علاقہ فوجی بھرتی کی سدا بہار فصل تھا۔ اُن گنت گھروں میں مانگیں بگاڑی اور چوڑیاں توڑی جا چکی تھیں۔ بچوں کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں یتیمی کی ریت گھس گئی تھی اور اچھے خاصے سیدھے سیدھے چلنے والے بزرگوں کی کمریں جھک گئی تھیں، لیکن بھرتی بدستور زوروں پر تھی اور پھر بھرتی میں اس شدت کی کشش تھی کہ وہ نوجوان جو اپنے کھیتوں کے تنہا رکھوالے تھے، تلائی کے بہانے گھروں سے نکلے اور ہلوں اور بیلوں کو کھیتوں میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ہفتوں کے بعد سکندر آباد یا لکھنؤ سے ان کی چٹھیاں آئیں کہ وہ ماں باپ اور بھائی بہنوں کو فاقوں سے مرنا نہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں اور ————— ”جنگ ابھی انڈیا سے دور ہے۔ اور آتے وقت میں ماں کی دواؤں کی پوٹلی چھینکے پر رکھنا بھول گیا تھا، وہ کوٹھے کے دکھنی کونے میں برتنوں کی پالی پر دھرے ہوئے سرپوش میں رکھی ہے، اور باقی یہاں ہر طرح سے خیریت ہے، اور آپ سے عرض ہے کہ پیر دستگیر کا واسطہ! مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ منی آرڈر باقاعدہ بھیجوں گا، فکر نہ کرنا۔ اور ہر نام سنگھ سے بعد سلام کے کہنا کہ اب ایک ہی برس میں سارا قرضہ چکا دیا جائے گا۔ اور ہر نام سنگھ کی بکریوں کا خیال رکھنا ————— ” بھرتی کی ہر کھیپ کے ساتھ ذیلدار کے گھر میں

سندوں کا ایک انبار جمع ہوتا گیا اور انگریزی ٹوپ والے صاحبوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی گلی کا چوراہا اجڑ کر رہ جاتا۔ کچی دیواروں پر تڑپتی ہوئی مندریں اور سنہری نودمیدہ مونچھیں اور ململ کے لمبے لمبے ڈھیلے ڈھالے چولے اور ٹیڑھی نوکوں والے گلابی جوتے اور جوانی سے لدے ہوئے چہرے چمٹے رہ جاتے اور پنہاریاں گھڑوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ان چوراہوں پر یوں ٹھنک ٹھنک جاتیں جیسے شادی والے گھر میں سے اچانک ڈھولک چوری ہو گئی ہو۔

اُس روز بھی گاؤں سے آٹھ نوجوان پیش ہوئے۔ ایک کی آنکھ پر ذرا پھولا سا تھا، اس لئے ڈاکٹری میں رہ گیا مگر بڑے صاحب نے وعدہ کیا کہ اگلے دورے میں اسے ضرور بھرتی کر لیا جائے گا۔ ”شت باندھنے والی آنکھ پر پھولا سہی مگر جنگ میں نشانے نہیں باندھے جاتے، بس گولی چلائی جاتی ہے“ — چوپال پر ان نوجوانوں کی مائیں اور بہنیں جمع ہو گئی تھیں۔ انہوں نے چہروں کو دوپٹوں میں لپیٹ رکھا تھا مگر آنکھیں ظاہر تھیں۔ اور ان آنکھوں کی چمک مر رہی تھی۔ پوٹوں کے ساتھ ساتھ نمی کے حاشیے تھے اور ادھ کھلے ہونٹوں پر پیاسیں تھیں۔ دونوں جوانوں کی بیویاں گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھے کنکروں سے زمین کرید رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کے سامنے بیٹھا ہوا بچہ خواہ مخواہ ہنس رہا تھا اور تالیاں بجا رہا تھا۔

ساتوں نوجوانوں کو زمین پر بیٹھ جانے کا حکم ملا تو ساتوں کی مائیں، بہنیں اور بیویاں کھڑی ہو گئیں اور ہنستا ہوا بچہ ماں کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر رونے لگا۔ ماں نے اسے اٹھا لیا تو وہ پیلی پیلی باچھوں والی ایک لالی کی طرف دیکھنے لگا جو چوپال کی منڈیر پر کھلونے کی طرح جمی بیٹھی تھی۔ پھر بڑے صاحب نے تقریر کی جس میں اس گاؤں کے دلیر اور جری نوجوانوں کی تعریف تھی۔ کس طرح سنہ ۱۴ء کی لام میں اس گاؤں کے چوراہے نوجوان فرانس اور میسو

پوٹیمیا میں کام آئے اور تین نوجوانوں کو تمنغے ملے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اس دوسری بڑی جنگ میں پہلی لام سے کہیں زیادہ تمنغوں اور انعاموں کی گنجائشیں ہیں۔ تنخواہوں اور الاؤنسوں میں مزید اضافے کے وعدے کرنے کے بعد وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بچہ پیلی باچھوں والی لالی کی بجائے بڑے صاحب کو دیکھنے لگا۔ وہ بولے۔

”ماؤ اور بہنو! تم بالکل بے فکر رہو۔ اپنے بادشاہ سلامت کی آن پر قربان ہو جانا ہر مذہب میں جائز ہے۔ تمہارے بیٹے اور بھائی تمہارے گھرانوں کے نام اونچے کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ واپس آئیں گے تو ان کے پاس تمنغے ہوں گے اور سندیں ہوں گی اور عزت ہوگی۔“

”اور اگر واپس نہ آئے؟“ بچے والی عورت نے ساتھ والی عورت سے پوچھا۔

اس عورت نے یہ سوال آگے چلا دیا ”سچ مچ اگر یہ لوگ — میری زبان جل جائے — واپس نہ آسکے تو؟“

یہ سوال سب عورتوں میں چکر کاٹ گیا اور پھر ایک بڑھیا نے زبان کو مسوڑھوں پر بجاتے ہوئے بلند آواز میں کہا ”صاحب جی! اگر ہمارے بچے واپس نہ آسکے تو؟“

”تو گھر والوں کی پنشن بندھ جائے گی۔“ صاحب نے جواب دیا۔

اس جواب سے کوئی اور سوال پیدا نہ ہو سکا۔

پیلی باچھوں والی لالی اڑ گئی اور صاحب بیٹھ گئے۔

بھرتی کرنے اور بھرتی ہونے والا جتھا جب چوپال سے نکل کر واپس جانے لگا تو ایک لمبی گلی کے سرے تک گاؤں والے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر وہ ساتوں نوجوانوں کو سینے سے بھینچ بھینچ کر پلٹنے لگے اور گاؤں کی آخری گلی میں صرف ذیلدار الوداع کہنے کے لئے باقی رہ گیا۔ اور جب وہ بھی

بھرتی کرنے والوں سے جھک جھک کر اور بھرتی ہونے والوں سے تن تن کر ملتا واپس چلا گیا تو کہیں سے کسی عورت کی گھگھیائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ”بھرتی والے صاحب جی!“

جتھا رک گیا۔ اور جب دوسری بار بھی یہی آواز سنائی دی تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی ایک عورت دو ایک موڑ پر کھڑی انہیں دونوں ہاتھوں سے ادھر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک صاحب کو نئے بھرتی ہونے والوں کے ساتھ ساتھ جانے کی ہدایت کر کے مسکراتے ہوئے عورت کی طرف چلے۔

وہ عام دیہاتی عورتوں کی طرح تھی۔ چالیس کے لگ بھگ کا سن ہو گا، مگر چہرے پر نئی نئی جھریاں کچھ اس طرح ابھر رہی تھیں جیسے انہیں مل دیا جائے تو غائب ہو جائیں۔ کنپٹیوں کے چند بال سفید تھے اور رنگ دن کے چاند کی طرح میلا میلا سا تھا۔ بے رونق ہونٹوں پر بے شمار عمودی لکیریں تھیں، ہاتھوں کی نیلی نیلی رگیں ابھر آئی تھیں اور انگلیوں کی جڑوں کا رنگ کچھ ایسا تھا جیسے چند ہی روز پہلے ان سے انگوٹھیاں اور چھلے اتارے گئے ہیں۔ وہ کچھ یوں دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو پہچان نہیں پا رہی۔ بھرتی والی ٹولی اس کے قریب پہنچی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ ایک عجیب مضحک مسکراہٹ تھی، کچھ ایسی ڈھیلی ڈھالی اور لٹکی لٹکی سی جیسے ابھی زمین پر ٹپک پڑے گی اور اس کے ہونٹوں پر بے شمار عمودی لکیروں سے لہو پھوٹ پڑے گا!

”کیا بات ہے مائی؟“ بڑے صاحب نے پوچھا۔

اس نے بغیر کسی جھجک کے بڑے صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا ”بڑی غریب ہوں صاحب جی!“ وہ ہونٹوں کو کچھ یوں بل سے دیتی تھی جیسے مسکراہٹ کو سنبھالے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے ”اتنی غریب ہوں صاحب جی کہ آج مجھے گھن لگے چنے کھانے پڑے جب سے پیٹ میں جیسے کیڑے رینگ رہے ہیں۔“

گھن لگے چنوں میں چنا تو ہوتا ہی نہیں، صرف چھلکا ہوتا ہے اور چھلکا بھی ایسا کڑوا جیسے کریلا۔“

بڑے صاحب نے عورت کو ٹوکا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ پہلے ہی چھڑا لیا تھا، اس لئے اب پلٹ جانے کا انداز اختیار کرتے ہوئے بولے۔ ”بھیک تک مانگنے کا ڈھب نہیں آتا جاہلوں کو۔“

عورت مسکرائے جا رہی تھی ”خفا نہ ہو صاحب جی بھیک نہیں مانگنی ہے۔ لڑکا بھرتی کرانا ہے۔“

سب صاحب مسکرائے۔

”وہ بہت شرمیلا ہے، سب کے سامنے آنے سے گھبراتا ہے۔ کہتا ہے اگر بھرتی نہ ہو تو پھبتیاں اڑیں گی۔“

”کہاں ہے؟“ بڑے صاحب نے پوچھا۔

”گھر میں ہے صاحب جی! میں بہانہ کر کے آئی ہوں۔ میں نے کہا ”میں ذرا جنگلی ساگ توڑ لاؤں۔“ بولا ”میں توڑے لاتا ہوں۔“ میں نے کہا ”چوپال میں جانے سے شرم آتی ہے تو دوسروں کے کھیتوں کی مینڈوں پر سے ساگ توڑنے سے کیا طرہ اونچا ہو گا تیرا؟“ جھینپ کر گنگنانے لگا۔ ”پھل پئی چندی آں یار جینے دی بوٹی آ۔“

”بڑی رنگین بڑھیا ہے۔“ بڑے صاحب نے چھوٹے صاحب سے

کہا۔

سب چھوٹے بڑے صاحبوں نے زور کے قہقہے لگائے اور بڑھیا ناک کو دوپٹے میں چھپا کر مسکرانے لگی اور بولی۔ ”ایسی ایسی کلیاں گاتا ہے کہ گھی پٹکا پڑتا ہے ان سے۔“

وہ سب ایک بار پھر زور سے ہنسے۔

”تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے گھر جا کر تمہارے بیٹے کو بھرتی



کر لائیں؟“

بڑے صاحب نے نرمی سے پوچھا۔

”بڑا شرمیلا ہے صاحب جی!“ عورت نے منت کے انداز میں کہا۔

”یہ پاس ہی تو میرا گھروندہ ہے۔ آپ چند قدم چلیں گے اور مجھ مسکین کا بھلا ہو جائے گا۔ بیٹا جیتا رہا تو الاؤنس ملے گا، مر گیا تو پنشن بندھ جائے گی۔ ہر حالت میں روپیہ تو کہیں گیا نہیں۔ اور صاحب جی! مجھے تو گھن لگے چنوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔۔۔۔۔ میری عمر کی عورتیں آج بھی گھوڑیوں کی طرح دوڑتی پھرتی ہیں، سر پر دو گھڑے اور بغل میں بچے۔۔۔۔۔ اور میں ہوں کہ آپ کو پکارنے کے لئے ذرا تیز تیز قدم اٹھائے تو اب تک سانس سلیقے سے نہیں آرہی۔ پہلے تو آپ سب میرے سامنے پھر کیوں کی طرح گھومتے رہے۔“

بڑے صاحب جو عورت کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے بولے ”اور

کہیں اس وقت ہم تمہارے سامنے سر کے بل تو نہیں کھڑے ہیں؟“

عورت بے اختیار ہنس دی ”سر کے بل ہوں آپ کے دشمن، جرمن

اور جاپان۔۔۔۔۔“

”واہ!۔۔۔۔۔“ اور وہ اپنے گھر کی طرف کچھ ایسے اعتماد سے پلٹی جیسے اب بھرتی والوں کے لئے انکار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

اور وہ سچ سچ اس کے ساتھ ہو لئے۔

چند قدم چل کر عورت رکی اور پھر بڑے صاحب کے ساتھ ساتھ چلتے

ہوئے عاجزی سے بولی ”اتنا سا تھا جب اس کا باپ اللہ کے ہاں سدھارا۔ سات

روپے مہینے کی پنشن تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ پہلی لام میں گھٹنے پر گولی لگی

تھی اس لئے ذرا لنگڑا کر چلتا تھا، مگر ناک نقشہ ایسا کہ آج بھی زندہ ہوتا تو آپ

سمجھتے کوئی بھرتی ہونے آیا ہے۔ اس کا بیٹا ہو بہو وہی ہے۔ جمال بیگ نام ہے۔

میں اسے جموں اور جمالو اور بیگا، اور جانے کیا کیا کہتی ہوں۔ بڑا پیارا لگتا ہے

مجھے، اکلوتا ہے نا۔ چکی پیس پیس کر اسے پالا پوسا اور چوتھی تک پڑھایا ہے۔  
مجھے کہانیوں کی کتابیں پڑھ کر سنا تا ہے اور گاتا اتنا اچھا ہے جیسے تانے کے تھال  
میں بوندیں گر رہی ہوں۔“

بڑے صاحب نے اس کی بات کاٹی ”تم نے تانے کے تھال میں  
بوندوں کو گرتے سنا ہے کبھی؟“

”لیجئے۔“ بڑھیا نے اپنے ہاتھ کو کمان بنا کر صاحب کی طرف اس طرح  
بڑھایا جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ”ارے صاحب! عمر گزر گئی تانے کے  
تھال کی گنگناہٹ سنتے سنتے۔ زندگی میں مجھے کوئی ایسی برسات یاد نہیں جب  
ہمارے کوٹھے کی چھت نہ ٹپکی ہو، اور جہاں جہاں سے ٹپکا لگا میں نے اس کے  
نیچے تانے کے تھال اور تھالیاں اور کٹورے رکھے، اور ہر بوند پر میرا جمال اہا ہا  
ہا ہو ہو ہو پکار اٹھا۔ ہم ماں بیٹا کونے میں دیکے یہ ساز سنتے تھے اور جمالو کہتا۔  
ابھی اسی برسات میں کہہ رہا تھا کہ لوگ بوندوں کو دیکھتے ہیں اور ہم ماں بیٹا  
بوندوں کو سنتے ہیں۔“

چھوٹے صاحب سے بھی چھوٹے صاحب نے سگرٹ کا ٹرا پوروں پر  
چڑھا کر دور پھینکتے ہوئے کہا ”اب تمہارا گھر کتنی دور ہے بڑھیا؟“

”بڑھیا!“ عورت بے اختیار ہنسی ”ارے صاحب آپ نے شاید اب  
تک کوئی بڑھیا دیکھی نہیں۔ چالیس کی بھی تو نہیں ہوں۔ بس اس موڑ  
سے اگلے موڑ پر میرا گھر ہے اور۔۔۔“ اب وہ بڑے صاحب سے مخاطب  
ہوئی ”ایسا گھرو آپ نے اب تک بھرتی نہیں کیا ہو گا۔ صاحب جی! آپ ملک  
پنجاب کے پچھتم سے پورب تک چلے جائیں۔ آپ کو ایسا جوان ذرا مشکل ہی  
سے ملے گا۔ صبح کی نئی نئی دھوپ کا سا تو رنگ ہے اس کا اور بال ریشم جیسے اور  
آنکھیں اتنی پیاری جیسے خدا نے اپنے ہی ہاتھ مبارک سے بنائی ہیں۔ ابھی میں  
بھیگ رہی ہیں۔ ہونٹوں پر سنہرے سنہرے روئیں، جو دیکھنا چاہو تو نظر نہ آئیں

اور ویسے یونہی سونے کی ایک لکیر جھلملا کر رہ جائے۔ چھاتی اس کی تین بالشتوں کے برابر اور بازو یہ یہ۔ کبڈی کا کھلاڑی بھی ہے۔“

”تو وہ اتنا شرماتا کیوں ہے؟“ صاحب نے پوچھا۔

”وہ سب سے شرماتا ہے صاحب جی! ساری دنیا اس سے شرماتی ہے نا، اس لئے وہ دنیا کو دیکھ کر شرماتا ہے۔ کبڈی میں مقابل کے آدمی کو گرا کر پھر خود ہی اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ مجال ہے جو کسی لڑکی کی طرف بری نظر سے دیکھا ہو آج تک۔ ہر مرد نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لڑکی کو ضرور بری نظر سے دیکھا ہو گا، مگر وہ ہے کہ ادھر سے کوئی لڑکی گزری ادھر اس کے منہ پر گلاب کے پھول کھلے جا رہے ہیں۔“

بڑے صاحب نے چھوٹے صاحب سے پوچھا ”آپ نے کبھی کسی کو بری نظر سے دیکھا ہے؟“

”جی!“ چھوٹے صاحب نے بڑے غرور سے اعتراف کیا۔

”کسے؟“ بڑے صاحب شرارت پر تلے ہوئے تھے۔

”اپنی بیوی کو۔“ چھوٹے صاحب نے کہا۔ اور پھر ایک دم سب بے اختیار ہنس دیئے۔ عورت نے اپنی بات جاری رکھنے کے لئے ہونٹ کھولے تو چھوٹے صاحب نے بڑے صاحب سے پوچھا۔ ”اور آپ نے؟“

بڑے صاحب بولے ”ہاں، ایک لڑکی کو دیکھا تھا، مگر وہ کسی اور لڑکے کو بری نظر سے دیکھ چکی تھی اس لئے بات آگے نہیں بڑھنے پائی۔“

”پھر؟“

”پھر کیا“ بڑے صاحب بولے ”بس پھر ادھر ہٹلر نے سرکار کے خلاف جنگ کر دی اور ہم فوج میں بھرتی ہو گئے۔“

ایک بار پھر سب زور زور سے ہنسنے لگے۔

چھوٹے سے بھی چھوٹے صاحب نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا ”بھئی  
کہاں گیا تمہارا گھر؟“

”سامنے ہی تو ہے صاحب جی!“ عورت بولی اور پلٹ کر گاؤں کے ان  
لوگوں پر اچھتی سی نظر ڈالی جو پیچھے پیچھے دبے پاؤں آرہے تھے۔ وہ سب حیران  
تھے اور ان کے چہروں پر کچھ ایسا تاثر تھا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر جرأت نہیں  
کر پاتے۔

عورت کہہ رہی تھی ”میں نے اس کے لئے ایک لڑکی بھی ڈھونڈ نکالی  
ہے۔ اس کا باپ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے اور روز اٹھنی کما لیتا ہے۔ لڑکی کھجور  
کے پتوں کی چنگیریں بناتی ہے، ایسی پیاری پیاری کہ سنا ہے اس کی بنی ہوئی چھ  
چنگیریں تو ہمارے تھانے کا تھانے دار بھی لے گیا تھا اپنے کپتان کے لئے۔ سوچتی  
ہوں جموں بھرتی ہو جائے، کچھ الاؤنس آنے لگے تو چند زیور بنوالوں، اور پھر  
جنگ رکے تو شادی رچاؤں اس کی۔ سرے گاؤں، ناچوں اور اتنی مہندی لگاؤں  
ہاتھوں پیروں میں کہ سرخی مر کر بھی نہ مٹے۔“

اچانک چھوٹے صاحب نے بڑے صاحب کے کان میں سرگوشی کی اور  
بڑے صاحب بھڑک کر بولے ”صاف بکو اس ہے۔ کون کہتا ہے؟ کوئی دشمن ہو  
گا اس کا؛ یہ دیہاتی لوگ بڑے کینے ہوتے ہیں۔ ذرا ذرا سی دشمنیوں کے  
مارے لوگوں کی روزی پر ڈاکا ڈالنے سے نہیں چوکتے۔ آپ نے بھی اس کی  
باتیں سنی ہیں، میں بھی سن رہا ہوں؛ گڑ بڑ کا شائبہ تک ہوتا تو وہیں سے ٹر خا  
دیتے۔ لاجول ولاقوہ آپ سکول ماسٹر کے سکول ماسٹر ہی رہے۔“

عورت جو اب چند قدم آگے بڑھ گئی تھی، بولی ”یہ ہے میرا گھروندہ  
صاحب جی!“ پھر وہ پلٹ کر بڑے صاحب کے پاس آئی اور لجاجت سے بولی  
”اسے ضرور بھرتی کر کے اپنے ساتھ لے جائیں صاحب جی! مجھ سے گھن لگے  
چنے نہیں کھائے جاتے۔ گھی کھانے کا بن ہو اور دھول پھانکنے کو ملے تو آپ ہی

کہئے، بیٹے کو لام پر نہیں بھیجوں گی تو کیا اپنے سینے پر سوار رکھوں گی؟ اور صاحب جی! وہ گبھرو تو اس بلا کا ہے کہ اسے دیکھتے ہی اللہ کی قدرت یاد آجاتی ہے۔ آپ کے تو چھلکے چھوٹ جائیں گے — آئیے۔“

پھر وہ گھر کے دروازے پر آکر پوری قوت کے ساتھ پکاری ”جموں!

— اے جمالو! اے میرے سپاہی بیٹے!“

گاؤں والے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بھرتی کرنے والی ٹولی نے دروازے پر ٹکٹکی باندھ رکھی تھی۔ عورت کچھ دیر تک سب کے چہروں کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر ایک ایک کی وہ زور زور کے قہقہے لگا کر تالیاں بجانے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہ نکلا۔ سر کی چادر سرک کر نیچے گر گئی، الجھے ہوئے بال بے ترتیبی سے لٹکنے لگے اور وہ بڑے صاحب کی ناک کے پاس چٹکیاں بجاتے ہوئے وحشیانہ قہقہوں کے درمیان چیخ کی حد تک بولی ”سبحان اللہ! بھرتی کرنے چلے ہیں! — ارے جاہلو میرا لال تو ایک مہینہ ہوا رنگوں میں مارا جا چکا ہے۔“



## ووٹ

بھئی عجیب مشکل کا سامنا ہے؛ بھینس کے آگے بین بجانے والے تو خیر کوئی بزرگ گزرے ہی ہیں، اور خود میں نے پچھلے الیکشن میں کتنی بار بین بجائی مگر مجھے اب کے بین بجانے کے علاوہ بھینس سے اس کی داد بھی لینا ہے۔ حلقے کے پچاس فی صدی ووٹ ملک صاحب کی جھولی میں ڈال چکا ہوں مگر وہ ہیں کہ بقیہ پچاس فی صدی کی رٹ لگا رکھی ہے۔ بچوں کی طرح مچل مچل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مقابل کے امیدوار کی ضمانت ضبط نہ ہوئی تو ایسی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت! بقیہ پچاس فی صدی کے لئے میں ضرور ہاتھ پیر مارتا؛ آخر آبائی پیشہ ہے، اور ووٹ حاصل کرنا بھی ایک فن ہے، مگر ان بقیہ پچاس فی صدی ووٹوں کی اکثریت ان چھوٹے چھوٹے کسانوں اور مزارعوں کے پاس ہے جو پچھلے دنوں کسان کمیٹی کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ملک صاحب پر چڑھ دوڑے تھے۔ ایسا ہلا بولا تھا، وہ وہ نعرے لگائے تھے، وہ وہ گھونسنے تانے تھے کہ بس اللہ دے اور بندہ لے۔ میں نے تو گولی چلانے کا مشورہ دے دیا تھا مگر ملک صاحب نے باوجود شدید ریشے کے ہمت کی، پیر جی کو بلوایا اور ان کے ساتھ ہجوم کے سامنے چلے آئے اور یہ کنگلے ایسے طوطا چشم کہ ملک صاحب تو رہے ایک طرف، پیر جی

کے لئے لے ڈالے۔ وہ تو کسان کمیٹی کا بھلا ہو کہ پروگرام پُر امن مظاہرے کا تھا ورنہ جانے کیا کچھ دیکھنا پڑتا۔ کسان اور مزارعے چلے گئے تو ملک صاحب نے گاؤں بھر کے مولویوں کو بلا کر ایک گھنٹے میں قرآن شریف کا ختم پڑھوا ڈالا۔ اور اس کے بعد ایسا حلوہ کھلایا کہ گھی کھنیوں تک دوڑ گیا۔ اور اب باقی ووٹ حاصل کرنے کے لئے مجھے انھی ”ہالیوں“ کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ میں باز آیا اس دلالی سے۔ ملک صاحب نے اپنے اردگرد جو اتنے بہت سے کالے خانی مسٹنڈوں کی فصل اگا رکھی ہے، تو اسے کیوں نہیں کام میں لاتے۔ وہ آخر کس مرض کی دوا ہیں۔ بٹیر اور تیترا نکلیں وہ، اور شیر کی مونچھ کا بال توڑوں میں۔ کیوں صاحب! آخر کیوں؟

اور پھر یہ ننگ دھڑنگ کنگلے فلاش جنم جنم کے بھک منگے، ان سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ تمہارے باوا کی جاگیر ہے کہ نہ بٹائی دو نہ نذرانے، نہ بیگار پر کام کرو نہ ووٹ دو، بس پڑے اینڈتے رہو ان کھیتوں میں جن کے دانے دانے پر پٹوار خانے کی مہریں لگی ہیں؛ تم کیا جانو بد نصیبو کہ یہ زمینیں کہاں سے آئی ہیں۔ شاہجان کے زمانے میں ملک صاحب کے ایک بزرگ سنگ مرمر کی قبریں بناتے تھے۔ شاہجہان کی ایک باندی کی قبر کے صلے میں انہیں ایک سو ایکڑ زمین ملی۔ پھر بڑی جاگیریں تو خرگوشوں کی طرح پھولتی پھلتی ہیں۔ ہر نسل نے سو دو سو ایکڑ کا اضافہ کیا۔ سکھوں کے زمانے میں ملک جی کے پردادا نے ایک گوردوارے کے لئے ایک سو ایکڑ زمین دے دی، اور مہاراجہ نے خوش ہو کر بدلے میں پانچ سو ایکڑ کی جاگیر بخش دی۔ انگریز کے زمانے میں اس پردادا نے علاقے کے پانچ سو جوان دلی کے باغیوں کی سرکوبی کے لئے بھیجے جن میں سے صرف کالے خاں اور اس کے چند ساتھی واپس آسکے، انگریز نے خوش ہو کر پانچ گاؤں ملک جی کے حوالے کر دیئے، یعنی ایک سو جوان کے بدلے میں ایک گاؤں۔ انگریز سرکار کی فراخ دلی تو خیر کہاوت بن چکی ہے۔ اور ہاں، وہ جو

کالے خاں اور اس کے ساتھی غدر سے واپس آئے تھے تو ان سوراؤں نے جلاووں کا فرض سنبھال لیا۔ کہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تیل میں سنے ہوئے چابک ہوتے تھے، اور جب کوئی کسان ذرا سا اکڑتا تھا تو یہ چابک سراسر چلتے تھے، اور اس کی جلد کی کترنیں تک گرنے لگتی تھیں۔ پھر ٹوانہ راج میں ملک صاحب نے مسلم لیگ میں کام کرنے والوں پر وہ وہ جھوٹے مقدمے چلوائے کہ ہائی کورٹ تک اپیلیں نامنظور ہوتی چلی گئی تھیں۔ چند کسانوں نے جناح صاحب کا نام لیا تو ملک صاحب نے انہیں چوپال کے ستونوں سے باندھ کر کالے خانیوں کو بلوایا، انہوں نے مریچوں کا دھواں دیا تو لیگ کے سارے نشے ہرن ہو گئے۔ پھر پاکستان بننے کے بعد ملک صاحب کے بنگلے پر اتنا اونچا جھنڈا نصب کیا گیا کہ کووں، چیلوں اور چڑیوں نے کچھ دن کے لئے ادھر آنا تک چھوڑ دیا تھا۔ اور آج ملک صاحب پاکستان کے بہت بڑے خیر خواہوں میں گنے جاتے ہیں اور حکمرانوں کے نمائندے اس علاقے میں آئیں تو سب سے پہلے ملک صاحب ہی کے ہاں دعوت کھاتے ہیں اور یوں ان کی زمینیں مزید انڈے دے رہی ہیں۔

— صوبے کی لیگ کے جلسوں میں ہوا کا رخ دیکھنا ہو تو ملک صاحب کو دیکھ لو۔ جدھر وہ ہوں گے ادھر ایک دنیا ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ ملک صاحب کا بڑا اقبال ہے۔ کبھی کبھار مسجد میں آنکلیں تو نمازی مارے ادب کے اگلی صف چھوڑ کر پیچھے ہٹ آتے ہیں اور امام صاحب اپنی جائے نماز اٹھا کر ان کے سامنے بچھا دیتے ہیں؛ نہ جانے ان کسانوں اور مزارعوں کو کسان کمیٹی والوں نے کون سا تعویذ گھول کر پلا دیا ہے کہ یہ نمک حرام اب انھی ملک صاحب کے منہ آنے لگے ہیں اور ادھر ملک صاحب کے اوسان بھی خطا ہو رہے ہیں۔ راتوں کو اٹھ اٹھ بیٹھتے ہیں اور تکیے کے نیچے ریوالور ٹٹول ٹٹول کر آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں گھورتے رہ جاتے ہیں۔ میں ایک رات اُس وقت جاگ رہا تھا جب ملک صاحب ہڑبڑا کر اٹھے اور ریوالور سنبھال لیا۔ میں نے چونک کر



پوچھا ”کیا بات ہے؟“ تو انہوں نے نہ جانے کیوں جواب میں مجھے گالی دے دی۔ صبح کو اٹھے تو میرے پر اٹھے پر مکھن کا ایک گولا رکھتے ہوئے بولے ”برانہ ماننا بھئی ہدایت اللہ میں نے گالی تمہیں نہیں دی تھی۔“

میں نے ویسے ہی بات چلانے کے لئے پوچھ لیا ”تو پھر کسے دی تھی؟“ اور وہ مکھن کو پر اٹھے پر پٹخ کر غصے سے بولے۔ ”تمہاری ماں کو دی تھی۔“

یعنی مطلب یہ ہوا ان باتوں کا کہ ملک صاحب کا اپنا تو یہ حال ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں ان کسانوں سے ووٹ مانگنے جاؤں، کوئی دے دے تو ذرا سا تھپک دوں۔ انکار کرے تو زمین سے بے دخل کر دوں اسے اور کوئی بے دخل بھی نہ ہو تو اس کے گھر میں کوئی ٹوٹا پھوٹا گھسا گھسایا پستول پھینکوا کر تھانیدار کو اطلاع دے دوں اور خود ایک طرف بیٹھ کر تماشہ دیکھوں؛ راج ہٹ دیکھتے کہ کتے ہیں مقابل کے امیدوار کو ایک بھی ووٹ نہ ملے۔ سنہ پینتالیس کے الیکشن میں تو خیر سب ڈویژنل افسرنے ان کے حق میں ہاتھ کی صفائی کا ایک ایسا کمال دکھایا تھا کہ الیکشنوں کے بڑے بڑے گھاگ ان کے ہاتھ چومنے کو تیار ہو گئے تھے اور ووٹر ان کے نام کا کلمہ پڑھنے لگے تھے۔ ووٹ اُدھر دیتے تھے اور وہ اُدھر چلا آتا تھا۔ اب ایسا دولہا قسم کا سب ڈویژنل افسر کہاں سے آئے۔ ملک صاحب کی صاحب سلامت تو ہر افسر سے آج بھی ہے مگر راتوں کو اکٹھے ہو کر خاص الخاص گانے والیوں پر روپے نچھاور کرنے اور خود نچھاور ہو جانے والے افسر اب کہاں! ہوں گے تو ضرور پر ادھر تو صرف سوکھے سڑے آنکلتے ہیں جنہیں مسلوں کا کیرا چاٹ چکا ہے۔ سبحان اللہ! کیا زمانے تھے، سب ڈویژنل افسری طاق پر دھری ہے اور حضرت آدم کے سیدھے سادھے بیٹے سامنے آگئے ہیں۔ ننگے ہو ہو کر گانے والیوں کے ارد گرد ناچ رہے ہیں اور گانے والیوں کو ننگا کر کے اپنے ارد گرد نچا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب تک بوڑھا نہیں

ہوا۔ ایک بار مونچھ کا ایک بال سفید ہو رہا تھا کہ اتفاق سے ڈویژنل افسر کے دورے کا پروگرام آگیا اور ملک صاحب نے رقص و سرود کا پروگرام مرتب کیا۔ ملتان سے چار ”دانے“ منگوائے گئے اور جب سب پروگرام پورے ہو گئے تو سفید بال غائب ہو چکا تھا۔ ہائے کیا دن تھے اور کیا لوگ تھے۔ سردیوں میں اگر کسی افسر کا دورہ پڑتا تھا تو کسان اور مزارعے مرغیوں اور ان کے انڈوں اور پھر لکڑیوں اور گھی تک کا ایک انبار لگا جاتے۔ حقے دھوتے، چلمیں جھماتے اور چوپال کی ڈیوڑھی میں بیٹھ کر گانے گاتے۔ ملک صاحب کی ماں مری تھی تو جوق در جوق ہر طرف سے اُڈ پڑے تھے اور ان کی عورتوں نے جنازے پر اس شان سے پیٹا تھا کہ آج تک کسی جاگیردار کی ماں کو شاید ہی ایسا ماتم نصیب ہوا ہو۔ اور اب یہی کسان ہیں کہ بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ادھر ایک ہاتھ اٹھاؤ تو ادھر پچاس درانتیاں ابھرتی ہیں۔ اور مجھے ان گنواروں کے پاس ووٹ لینے کے لئے بھیجا جا رہا ہے۔ اور اگر میں ان سے ووٹ نہ لے سکا تو دلالی کی فیس کا نصف حصہ کٹ جائے گا اور عمر بھر کی شاندار دلالی پر پانی الگ پھر جائے گا۔ سیدھی سی بات تھی، پولنگ کی تاریخ کا انتظار کرتے اور پولنگ افسر کو بیس تیس چالیس ہزار تھما دیتے تو نہ ملک صاحب کی نیندیں حرام ہوتیں نہ مجھے اس دوزخ میں دھکا دیا جاتا، مگر ایک عرصے سے ملک صاحب کو روپیہ کچھ ایسا پیارا لگنے لگا ہے کہ جیب سے ایک چھلکا نکالتے ہیں تو اختلاج شروع ہو جاتا ہے۔ گندم کے نرخ میں ساڑھے تین آنے فی من کی کمی ہوئی تو وہ وہ تہجد پڑھے ہیں، وہ وہ نفل ادا کئے ہیں کہ نرخ گرا رہتا تو اب تک قطب بن چکے ہوتے۔

بہر حال جانا تو ہے ہی۔ رخصت ہولوں ملک صاحب سے؛ ہو سکتا ہے انہیں رحم آجائے اور اپنے عبدالغفور ہی کو بھیج دیں، یا مجھے ہی ان کم بختوں کو ورغلانے کا کوئی آسان ساگر بتا دیں۔ مگر کیا بتا پائیں گے۔ میں نے تو سنا ہے

بزرگوں سے کہ فصل میں ڈوبی ہوئی درانتی جب کسان کے کندھے سے اوپر اٹھ کر قتل جائے گی اور تلی ہی رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسرائیل اپنے صور کو پھونکنے ہی والے ہیں۔

## (۲)

تم بھی عجیب ہونق قسم کے آدمی ہو ہدایت اللہ! دلالوں کے یہ چلن نہیں ہوتے کہ ووٹروں سے سریش کی طرح چمٹ جانے کی بجائے ان سے کترانے کے ڈھنگ سوچتے پھریں؛ باپ دادا کے نام کو بٹا لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی۔ وہ تمہارے دادا ہی تو تھے جنہوں نے میرے بہشتی دادا کے دشمنوں کے لئے ایسے ایسے سستے کرائے کے قاتل ڈھونڈ نکالے تھے جیسے وہ لوگ انسان کی جگہ گاجریں مولیاں کاٹنے نکلے ہیں۔ پچاس روپے اور تن کے تین کپڑے بھی کوئی قیمت ہے ایک انسان کی؟ اور وہ بھی دشمن انسان کی؟ اور پھر تمہارے باپ نے میرے ابا جان مرحوم و مغفور کے لئے ایسی ایسی بیویوں کے سودے کئے کہ جہاں بیٹھتی تھیں وہاں گزروں تک مٹی کے ذرے تک چمک اٹھتے تھے۔ اور تعداد کو شرعی تعداد سے بڑھتے دیکھا تو فالتو بیویوں کی موت کے ایسے ایسے ٹونکے سمجھائے کہ کوئی بھولے سے بھی قتل کا شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور ایک تم بھلے مانس ہو کہ کسان کمیٹی والوں کے خوف سے تمہاری گھگھی بندھی جا رہی ہے۔ ناک میں بلاق اور کانوں میں بالیاں پہن کر باہر گلیوں میں تالیاں بجاتے اور گاتے ہوئے نکل جاؤ — شرم تو نہیں آتی؟“

”جی آرہی ہے۔“ میں جواب دیتا ہوں۔ اور میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ مچ مجھے شرم آرہی ہے۔ باپ دادا کے کئے کرائے پر مجھ سے تو پانی نہیں پھرے گا۔ امیر وزیر اور جن بھوت کا خوف تو خیر سمجھ میں آنے والی چیز ہے، مگر

کسانوں مزارعوں کے خوف کا مطلب 'لا حول ولا قوۃ' —!

”ملک جی! بات یہ ہے کہ پندرہ بیس بد معاش میرے ساتھ کر دیجئے۔ پھر دیکھئے دلالی کے کیسے سینہ بہ سینہ آئے ہوئے نسخے آزماتا ہوں ان پر۔ ووٹ نہیں ملیں گے تو لڑکیاں اٹھوالوں گا؛ لڑکیاں نہ اٹھ سکیں تو قتل کر دوں گا، زہر دے دوں گا۔ کہوں گا ہیضہ لے گیا ہے سب کو۔ آپ کے پاس تو حضور! میاں کالے خاں کی اولاد بھری پڑی ہے، بڑے تھارو بریڈ قسم کے بد معاش ہیں۔ بس انہیں میری کمان میں دے دیجئے، پھر دیکھئے کیسے ناکوں چننے چواتا ہوں۔ اور کچھ نہیں ہو گا تو زمینوں پر تو ان کے باوا کا اجارہ نہیں؛ کھڑے کھڑے نکلوا دوں گا۔ پھر جب پیٹ میں چوہوں کی بھگدڑ مچے گی تو دو اور دو چار کی بات آسانی سے سمجھ میں آجائے گی — لیکن ملک جی! آپ کچھ روپیہ بھی میرے ساتھ کر دیتے تو بہتر رہتا۔ قسم کھاتا ہوں آپ کی دستار کی کہ ایک پائی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ روپیہ اور رائفل، یہی تو مشکل کشا ہیں اس زمانے کے۔“

”روپیہ؟“ ملک صاحب حقے کی نئے پر ایک ٹوٹے ہوئے تار کا سرا پکڑ کر مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے بہت بڑی گالی دینا چاہتے ہیں مگر فیصلہ نہیں کر پاتے۔ پھر وہ ایک زور کاش لگا کر دھوئیں کو نتھنوں کے راستے اپنے گل مچھوں میں چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں ”ہاتھ کے میل کی میں نے پہلے کبھی پروا کی ہے جو آج کروں گا؟ بھئی ہدایت اللہ! اب کے سرکار نے اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن میں روپیہ استعمال نہ ہو۔ ہم اگر ایسا کر بیٹھے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور مجھے اسمبلی میں جانا ہے، سمجھے؟ یہ نمبرداری، سفید پوشی کا جھگڑا نہیں اور میں نے اپنی ذیلداری کے تنازعے میں بھی، تمہیں یاد ہو گا، فنانشل کمشنر بہادر کو دو دو ہزار کی دو دعوتیں دی تھیں اور دشمن کے تین رشتہ دار قتل کروا ڈالے تھے۔ میں روپے پیسے کو تو اپنی جوتی کی نوک تک پر نہیں لکھتا۔ مگر دیکھو، اب کے روپیہ خرچ نہیں ہو گا۔ انگریز ہوتا تو اس کے حکم کی خلاف ورزی میں مزہ

آتا۔ اپنے ہی بھائی بندوں کا راج ہے۔ ہم سے یہ سؤر نہیں کھایا جائے گا، سمجھے؟ رہی بد معاشوں کی ٹولی، تو تین چار تم لیتے جاؤ، باقی یہیں رہیں گے۔ جن کسانوں نے وعدے کر رکھے ہیں ان کی نگرانی بھی تو ضروری ہے۔ سنا ہے وہ حرام زادہ حشمت خاں کہہ رہا ہے کہ پچھلے تین چار برس میں ملک نے کون سا تیر مارا ہے جو اب بھی اپنا ووٹ ضائع کروں۔ جیسے ہم اسمبلی میں تیر مارنے ہی تو جاتے ہیں۔ کالے خانیوں نے اس کے تین چار بیلوں کو زہر دے دیا اور دو چار بیٹوں، بیٹیوں کی راہ چلتے مٹھی چاچی کر دی تو بسم اللہ کر کے ووٹ مجھی کو دے گا سالا۔ سو اس کام کے لئے باقی کالے خانیئے میرے پاس رہنے دو۔ حمزے کو تم لے جاؤ، لیکن اسے اور اس کے ساتھیوں کو کسان کمیٹی کے ان مریدوں کے بارے میں سمجھا دینا، کہیں شکاری خود ہی شکار نہ ہو جائیں۔ پہلے شرافت سے بات کرو، فتنیں کرو، پگڑی اتار کر ان کے جوتوں پر رکھ دو، ان کے بچوں میں مخانے بانٹو۔ چلو یہ بھی کہہ دو کہ اب کے ملک صاحب اسمبلی میں زمینداری کو بلا معاوضہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی زمینیں اپنے مزارعوں میں بانٹ کر صرف ممبر رہ جائیں گے اسمبلی کے۔ ویسے بھی میرا ارادہ ہے کہ اب زندگی کے جو چند برس باقی ہیں انہیں خدا کی یاد میں گزار دوں۔ سو ان پر کچھ اس طرح کا مسکا لگاؤ۔ اور ہاں۔۔۔ خیر تھوڑا سا روپیہ بھی لیتے جاؤ۔ دس ہزار کے قریب ووٹ ہیں، پانچ ہزار لے جاؤ، مگر یہ روپیہ یوں بانٹو جیسے تم ووٹ نہیں مانگ رہے، یتیم خانے میں چندہ دے رہے ہو، سمجھے؟ اور اگر یہ سارے جادو نہ چل سکیں تو پھر جو بھی جی میں آئے کر گزرو، اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھتا ہے۔ تمہارا بال تک بیکانہ ہو گا۔ اور ہاں ایک ضروری بات تو بھولے ہی جا رہا تھا۔ یہ کالے خانیئے کم بخت، لڑکیوں کے بڑے شوقین ہیں۔ اگر معاملہ کسانوں کی ہو بیٹیوں کی پکڑ دھکڑ تک پہنچے تو مجھے پیغام بھجوانا۔ یہ سالے سچے موتیوں کو خاک میں رول دیتے ہیں۔ پھول توڑ لینا اور بات ہے اور پھول کو سجا

لینا دوسری بات ہے۔ تو خیر، اب تم جاؤ، پانچ ہزار منشی سے لے لو۔ میں حمزے کو بلوا رہا ہوں، چند ہتھیار بھی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ مگر دیکھو روپے اور ہتھیار کی بات کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ میرے منہ پر جو ناک ہے، وہ صرف میری ناک نہیں، تمہارے اپنے باپ دادا کی ناک ہے، سن رہے ہونا؟ خدا حافظ!

میں ہاتھ جوڑ کر آخری درخواست کرتا ہوں: ”مگر سرکار! کیا ان پاگل کسانوں کی طرف صرف مجھی کو بھیجا جائے گا؟ عبدالغفور کو بھیج دیجئے۔ اسے بھی تو دعویٰ ہے کہ پانچ منٹ میں وہ بڑے سے بڑے کافر کو مسلمان بنا سکتا ہے۔ اس دن چوپال پر کہہ رہا تھا کہ ووٹ ہدایت اللہ کو نہیں ملے، ملک صاحب کے اقبال کو ملے ہیں۔ آپ کا اقبال آپ کے دلالوں کا بڑا سہارا ہے۔ مگر ملک صاحب! گستاخی معاف، انصاف شرط ہے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ آپ کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، اب بحث کرتے ہیں، اور اس کے باوجود حلقے کے آدھے ووٹروں کو آپ کے خادم نے ہموار کیا ہے۔ آپ ذرا عبدالغفور کو بھی کسوٹی پر لگا دیکھئے۔“

ملک صاحب اٹھ کر مجھے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ”عبدالغفور دوست ضرور ہے مگر دلال نہیں۔ تم دوست بھی ہو اور دلال بھی۔ خدا کا نام لے کر سفر کی تیاری کرو۔ اور دیکھو، جانے سے پہلے مسجد میں ضرور ہو آنا۔ مولوی صاحب سے دعا لے لینا، اور اگر پانچ ہزار روپوں میں سے پہلا روپیہ تم مولوی جی کے ہاتھ پر رکھ دو تو بسم اللہ اچھی رہے گی، جاؤ فی امان اللہ۔“

(۳)

میں ان بستیوں کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ مجھے سرمونٹ

مورٹنسی صاحب بہادر کا زمانہ یاد آ رہا ہے، جب حضور لاٹ صاحب یہیں ایک بار شکار کھیلنے کے لئے آئے۔ تازی کتوں کی ایک پلٹن ہمارے ساتھی تھی؛ سکھائے ہوئے باز ریشمی ٹوپیاں پہنے، مراسیوں اور مصلیوں کے ہاتھوں پر پنجے جمائے بیٹھے تھے؛ گھوڑوں کی ایک قطار آگے آگے تھی اور میں حضور لاٹ صاحب کے گھوڑے کے بالکل پیچھے تھا۔ میں نے کتنی بار حضور کی رکاب تھامی کیونکہ ان دنوں وہ ذیابیطس میں مبتلا تھے۔ انہیں بار بار اترنا پڑتا تھا۔ گورے رنگ پر ہلدی کھنڈ رہی تھی مگر مجال ہے جو لاٹ صاحبی کے ٹھاٹ پر حرف آنے دیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارا پنجاب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے بچھا ہوا ہے۔ اور پھر جب ایک بار ہرنوں کی ایک ڈار ہمیں نظر آئی ہے اور کتے لپکے اور گھوڑے جھپٹے ہیں تو حضور لاٹ صاحب کا گھوڑا ہم سب جنم جنم کے گھڑ سواروں سے آگے تھا۔ جھاڑیاں اور کھائیاں اُلانگتے ہوئے وہ ہرنوں پر بجلی بن کر ٹوٹے۔ دو کو حضور نے بھون ڈالا، ایک کو کتوں نے دبوچا اور ہرنی کا ایک بچہ تھک ہار کر ہمارے حلقے میں گھر گیا۔ اس ہرن بچے پر جو حضور لاٹ صاحب نے شفقت سے ہاتھ پھیرا ہے اور اس کے کانوں کی جڑوں کو کھجلیا ہے تو خداوند کریم کی قسم! یقین ہو گیا کہ اس انگریز قوم کو حکمرانی دے کر اللہ تعالیٰ نے سچ مچ انصاف فرمایا ہے۔ حیوانوں تک سے ایسا سلوک میں نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا۔ اور پھر آزادی کا یہ عالم کہ مجھ سے باتیں فرما رہے ہیں! یعنی مجھ سے! اپنے پیروں کی دھول سے مخاطب ہیں!! بولے ”ہڈائیٹ اللہ! تم ملک صاحب کا پرانا کھڈمٹ گار ہے، کوئی بیٹا ہو تو بتاؤ، ہم پٹواری بھرٹی کرے گا۔“

اللہ اللہ! کیا زمانے تھے اور کیا انداز تھے۔ انگریز افسروں کے بوٹوں کی دو ایک بار گرد جھاڑ دو اور بیٹے کو پٹواری بھرتی کرالو۔ تنخواہ بیس روپے، اوپر سے سینکڑوں اللہ تعالیٰ کی برکت سے — اور پھر اس روز اپنے پیدل ساتھیوں کے انتظار میں حضور لاٹ صاحب نے انہی بستیوں کی سیر کی۔ جدھر

سے گزرتے تھے ولایت آباد ہوتی جا رہی تھی۔ کسان خواہ مخواہ کانپے جا رہے تھے۔ حضور ایک جلاہے کی کھڈی تک ملاحظہ فرمانے چلے گئے اور جلاہے کا یہ عالم کی حضور سوت کے تار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور جولاہا ”جی مہربانی! جی آپ کا کتا ہوں“ کی رٹ لگائے جا رہا ہے۔ کھانے کا وقت آیا تو ہر شکاری کے سامنے دو دو بھنے ہوئے سالم مرغے رکھے تھے۔ حضور نے ان بستی والوں سے خوش ہو کر مدرسے کے بچوں میں مٹھائی بانٹنے کے لئے اپنی جیب خاص سے دس روپے عنایت فرمائے۔

میں ان بستیوں میں ملک صاحب کے کارندے کی حیثیت سے بھی کئی بار آچکا ہوں۔ پولیس کے ساتھ بھی یہاں کتنے چکر لگائے ہیں۔ ملک صاحب کے لئے ایک بیوی بھی تو یہیں سے جنی تھی۔ جسے چار سال کے بعد مجبوراً ”زہر دے دینا پڑا۔ کم بخت ہر نو دس مہینے کے بعد اکٹھے دو دو بچے دیئے جا رہی تھی اور یہ آٹھوں کے آٹھوں بچے تندرست و توانا تھے۔ کالے خانیوں کی ایک عورت نے اسے دوا کے بہانے زہر پلایا تو کہتے ہیں اتنی خوبصورت ہو گئی دم توڑنے کے بعد کہ ملک جی خود کہتے ہیں اس کی لاش کو عمر بھر شیشے کی الماری میں سجائے رکھنے کو جی چاہتا تھا۔ خدا کے غضب سے ڈرتے تھے ورنہ شاید اسے الماری میں رکھ ہی لیتے۔ اور پھر انہی بستیوں میں میں نے منہ پھٹ کسانوں کو وہ وہ جوتے مارے ہیں، وہ وہ ٹھوکریں لگائی ہیں کہ جب لوگ انہیں میرے سامنے سے اٹھا کر لے گئے تو ان کے کفن و دفن تک کی تیاریاں کر ڈالیں۔ یہ کسان لوگ منہ پھٹ تو ازل ہی سے ہیں۔ اچھے خاصے پڑے خاک چاٹ رہے ہیں کہ دماغ میں کوئی کیڑا کلبلاتا ہے اور منہ نوج لیتے ہیں، اس لئے تو ابا مرحوم کہا کرتے تھے کہ کسان اور کتے پر اعتبار نہ کرو۔ جو شخص اپنے پاس ہر وقت کسان کے لئے ٹھوکر اور کتے کے لئے لاٹھی نہیں رکھتا، ایک نہ ایک دن ضرور رگیدا جائے گا۔ چکارو گے تو پھٹکاریں گے، پھٹکار دو گے تو دم ہلانے لگیں گے۔ اور



ہمارے ملک جی بھی کچی گولیاں تو کھیلے نہیں۔ منہ پھٹ لوگوں کو چن چن کر نکالا ہے اور ایسا نکالا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں، زمینداروں نے دھکے دے کر چلتا کیا ہے۔ کئی فاقوں ہی میں مرکھپ گئے، کئی کوئلے اور نمک کی کانوں میں چلے گئے اور کئی بیوی بچوں سمیت بھک منگے بن گئے۔ لائل پور کے گھنٹہ گھر سے ٹیک لگائے آج بھی جو بھکاری ہر راہ چلتے پر دھڑا دھڑا تھوکتا رہتا ہے وہ ملک جی کا پرانا مزارع چراغ دین ہی تو ہے، جسے ملک صاحب نے ایک بار یونہی رواروی میں ایک ذرا سی ماں کی گالی دے دی تھی تو اس کم بخت نے چیل اتار کر ملک جی کے منہ پر دے مارا تھا اور ان پر تھوک دیا تھا۔ حرام زادہ، سور کا بچہ

! —

اور اب انہی بستیوں میں جتنے بھی کسان ہیں، اس بوڑھے چراغ دین سے بھی چند قدم آگے نکل گئے ہیں۔ سب کو چن چن کے نکال دیا جاتا مگر حرام زادوں کا ایسا ہے اور یہ ایسا ایسا پکا ہے کہ کسی کو نقب تک نہیں لگانے دیتے۔ اور ہمارے ملک صاحب میں اور کتنی خوبیاں کیوں نہ ہوں، ایک یہی کمی بہت کھٹکتی ہے کہ دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب دس ہزار ووٹروں کے لئے پانچ ہزار کی رقم کا مطلب تو یہ ہوا کہ اٹھنی اٹھنی میں ووٹ خریدنے چلے ہیں۔ اور اگر ان میں سے اپنا اور کالے خانیوں کا خرچ نکال لوں تو کوئی پانچ پانچ آنے فی ووٹ میں باقی رہ جاتے ہیں۔ ووٹ نہ ہوئے ریوڑیاں ہو گئیں کہ چوٹی دوٹی دو اور مٹھی بھرو۔ الیکشن لڑنے چلے ہیں۔ نمک حرامی ہو گی ورنہ کبھی کبھی تو انہیں گالی دینے کو جی چاہتا ہے۔ دلالی کی دنیا ہی بدل گئی۔ ساری ساکھ مٹ چلی ہے ان کے باپ کی کسان کمیٹیوں اور ان کی ماں کے جمہوری مورچوں کے ہاتھوں۔ اور اب سامنے یہ بستیاں بکھری پڑی ہیں۔ ہر مکان ایسا لگتا ہے جیسے شیر کا پنجرہ ہے اور اندر شیر اور شیرنیاں اور ان کے بچے کھڑے دھاڑ رہے ہیں ہم پر!

حزے بھائی! ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ تمہاری دونوں ٹیسکوں میں ریوالور ہیں اور ادھر میری جان پر بنی ہے۔ تم نے رات کے اندھیرے میں اکیلے وکیلوں کو آرام سے لٹا کر آہستہ سے ذبح کر ڈالا ہے، مگر یہاں دس ہزار کا معاملہ ہے۔ اور ہل کی ہتھیاں جکڑنے والے ہاتھ اگر ہماری گردنوں کی طرف بڑھے تو ہم یوں لٹکے رہ جائیں گے جیسے بلی کے منہ میں چوہا۔ مونچھوں پر اتنا تاؤ نہ دو۔ پگڑی کو ماتھے پر سے اٹھا لو، اور فی الحال بالکل شریف آدمی بن جاؤ؛ خبردار جو ان بستیوں میں کہیں آنکھ وانکھ مار دی۔ سنا ہے آج کل تو کسان عورت بھی اپنی زبان کی جگہ درانتی کی زبان سے جواب دیتی ہے۔ عورت پنکھڑی سہی لیکن بعض پنکھڑیاں زہر بھی تو ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب گلاب ہی کی نسل سے ہوں۔ آس پاس کے کھیتوں سے کسان ہل چھوڑ چھاڑ کر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وہ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کی طرف گھورو نہیں۔ ان کے پاس پہنچتے ہی ان سے یوں ملو جیسے وہ تمہارے سگے چچا کے بیٹے ہیں۔

اور یہ جو پانچ ہزار ہیں نامیری جیب میں، یہ ہم پانچ ہی آپس میں بانٹ لیں گے۔ ان کسانوں پر روپیہ ضائع کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شور زمین میں بیج بودے۔ بہر حال نمک حلالی ہم سب کی گھٹی میں پڑی ہے۔ غدر کے زمانے سے ملک صاحب کے خاندان کا دیا کھا رہے ہیں۔ کوشش تو ضرور کریں گے، مگر منت سماجت اور مار دھاڑ سے یوں نہ مانے تو پانچ آنوں سے بھی نہیں مانیں گے۔

ذرا اور قریب آ جاؤ۔ منشی کو تو اطلاع مل چکی ہو گی کہ ہم آ رہے ہیں۔ سنا ہے کہ منشی کی جان عذاب میں ہے۔ اس کی بیوی نے چار دفعہ اسے خودکشی کرنے سے بچایا ہے۔ خیر، جانے دو ان باتوں کو، ایک دفعہ ذرا اسمبلی تک چلے جائیں ہمارے ملک صاحب، پھر دیکھو کیسے اجڑتی ہیں یہ بستیاں۔ ان کی جگہ مہاجر کسان بلائے جائیں گے۔ مگر سنا ہے اب ان کے حوصلے بھی بڑھ رہے ہیں اور ایک ہو رہا ہے ان میں۔ جانے اس ایکے کا توڑ کیا ہے۔ روپیہ اور رائفلی

تو بیکار ہو گئے، مجھے تو کبھی کبھی ایٹم بم کا خیال آنے لگتا ہے مگر خیر۔  
 کسان ہمارے قریب آرہے ہیں۔ کسی کو آیت الکرسی یاد ہے تو پڑھ  
 لو۔ کسی کو یاد نہیں مردودو؟ مجھے بھی تو یاد نہیں۔ ملک کی خدمت کی دھن میں  
 اپنے خدا کو بھلائے بیٹھا ہوں۔ اب خدا ہی لاج رکھے تو رکھے۔

### (۴)

ٹھیک کہتے ہو حمزے! ہم نے ان کسانوں کو راضی کرنے کے لئے کیا  
 کچھ نہیں کیا۔ منت خوشامد کی، گڑیاں اتار اتار کر ان کے قدموں میں ڈال  
 دیں۔ ان کے غلیظ بچوں تک کو پیار کیا، پر انہوں نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی  
 کہ ہم ان کے آج ہی کے نہیں، صدیوں کے دشمن ہیں۔ اور وہ صرف آج ہی  
 کا نہیں، صدیوں کا بدلہ چکانے نکلے ہیں؛ اور وہ یہ باتیں ملک صاحب کی زمینوں  
 پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان زمینوں کی اجڑی  
 کوکھ کو انہی نے آباد کیا ہے اس لئے زمینیں بھی انہی کی ہیں۔ کیا نرالی منطق  
 ہے۔ پیار سے نہیں مانے تو تم نے ایک منہ پھٹ بڈھے کو گالی دے دی۔ ایک  
 اتنی سی خشخاش کے دانے بھر کی تو گالی تھی مگر بڈھے پر کیا کیا رنگ آئے ہیں،  
 اور اس کے ساتھی کیسے آپے سے باہر ہو ہو گئے ہیں۔ وہ تو بھلا ہو مولوی نجم  
 الحسن کا کہ شور سن کر نماز توڑ دی اور قرآن شریف اٹھا کر بھاگے آئے ورنہ  
 میرے سامنے تو قبروں کی قطاریں گھوم گئی تھیں؛ اور پھر غضب یہ کہ وہ مولوی  
 جی کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ باتیں سنی تھیں نا ان کی؟ کہتے تھے تمہارا  
 خدا صرف جاگیرداروں کا خدا کیوں ہے؟ آسمان سے بجلی بھی نہیں ٹوٹتی کہ بھسم  
 ہو جائیں سالے، گھٹنوں اور کہنیوں پر سے لباس اڑ گیا ہے۔ سر جھاڑ منہ پہاڑ  
 اور باتیں؟ — باتیں یہ کہ اب ہمارا وقت ہے اور ہم تم سے اپنا حق مانگیں

گے نہیں، چھین لیں گے، جھپٹ لیں گے۔ جھپٹ لیں گے؟ — سنتے ہو؟  
— سو حالات اس سے آگے کیا بڑھتے؟ اس سے آگے تو فرشتوں کو بھی  
دمہ ہو جائے!

تم نے اچھا کیا کہ حلیمہاں کو اٹھالائے ہو۔ میں نے بھی مجمع میں اسے  
دیکھا تھا تو ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کسی نے میری آنکھیں نکال لی ہیں۔ روشنی ہی  
روشنی اور اندھیرا ہی اندھیرا، اسی لئے تو اس وقت میں نے پانی مانگا تھا —  
بالکل چکا چوندا چھا گئی۔ اور جب سب ہمیں گالیاں دے رہے تھے تو اس کی گالی  
سنی تھی تم نے؟ میں تو اس کی گالی سنتا رہا۔ اتنی مٹھاس تھی اس کی آواز میں  
جیسے دعائیں دے رہی ہے۔ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھوں پیروں کے  
علاوہ اس کے منہ پر بھی پٹی باندھی جائے مگر فی الحال بندھی رہے۔ ملک صاحب  
کے سامنے جا کر کھولیں گے۔ جڑاؤ پلنگ پر لیٹے گی تو زبان خود بخود گنگ ہو جائے  
گی۔ مصری سے کہہ دیا ہے ناکہ فی الحال زبردستی نہ کرے؟ اس کا پھٹا ہوا چولا  
بھی کسی طرح سل جاتا تو اچھا تھا۔ اس کی سنہری جلد کالے چولے میں سے  
جھلکتی ہے تو خواہ مخواہ طبیعت گڑ بڑ ہونے لگتی ہے۔ یہاں سے رات کو چلیں گے  
نا تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنا نہ بھولنا۔ تم نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں غور  
سے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بولنے لگیں گی۔ ڈوروں میں لہو دوڑتا ہوا دکھائی  
دیتا ہے صاف۔

منت خوشامد، گالی دھمکی، گھونسلات، سب کچھ ہو ہوا چکا، مگر وہ ہے  
کہ انکار میں اس زور سے سر جھلکتی ہے جیسے دیواروں پر چوٹیں مار رہی ہے،  
جیسے سچ مچ کبھی نہیں جائے گی۔ وہ بھی کیا کسان عورتیں تھیں بے چاریاں،  
بالکل بھیڑیں، سیدھی سادی، ڈری ڈری، سہمی سہمی، بات بات پر جی جی کی  
رٹ۔ اور یہ نئی کسان لڑکی دیکھو، ایسی دلیر اور بہادر۔ شہزادیاں ضرور گزری  
ہیں مگر کسان ماؤں نے ایسی بیٹیاں کہاں جنی تھیں! خیر مانے گی کیسے نہیں، پہنچنے

دو ملک صاحب تک۔ اور کچھ نہیں تو پیر صاحب کا تیر بہدف حُب کا تعویذ تو ہے ہی۔

حلیماں جس کو ٹھے میں بند ہے اس کے دو دروازے ہیں نا؟ دونوں پر پہرہ ہے نا؟ منشی کو ادھر نہ جانے دینا، اسے بالکل پتہ نہ چلے۔ وہ کچھ کسانوں ہی کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہم یہاں سے نکل جائیں، پھر دیکھو کیسے چمڑی ادھر و اتا ہوں اس بد نصیب کی۔ کہتا تھا یہ کچھ ضروری نہیں کہ زمیندار کے مزارعے زمیندار کے ووٹر بھی ہوں۔ ایک کا تعلق زمین سے ہے دوسرے کا ضمیر ہے۔  
— افلاطون کا بچہ، حرام زادہ۔

حزے یار! ایک بار پھر بتاؤ تم نے حلیماں کو کیسے پکڑا تھا۔ تم کالے خانئے جب نوجوان لڑکیوں کی باتیں کرتے ہو تو خدا کی قسم وارث شاہ بن جاتے ہو۔ کوئی اس چھوکری سے پوچھے آخر منہ اندھیرے کنویں پر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ کہتے ہیں، منہ اندھیرے کا بھرا ہوا پانی دن بھر ٹھنڈا رہتا ہے مگر یہ کسی دانانے نہیں بتایا کہ منہ اندھیرے کی اٹھائی ہوئی لڑکی کہیں نکلتی بھی ہے یا اٹھتی چلی جاتی ہے۔ اچھا تو وہ تمہارے ہاتھوں سے کیسے نکل گئی؟ بتاؤ نا یار! تم نے شاید مکھن کے گولے کی مثال دی تھی۔ ان لڑکیوں پر نہ جانے اتنا گوشت کہاں سے آ جاتا ہے۔ کھاتی تو دال روٹی ہیں اور معلوم یوں ہوتا ہے کہ چھو لو تو انگلیاں گلابی ہو جائیں گی۔ اُس دن تم نے وزیر صاحب کی وہ تصویر دیکھی ہو گی جو ملک صاحب نے چوپال میں لگائی ہے؟ میں نے ایک بار تصویر پر انگلی پھیری تو بے شمار ننھے ننھے سنہری ذرے چھٹتے چلے آئے۔ خیال آتا ہے کوئی حلیماں کے بازو چھو لے تو ان کا سونا کیسے چھٹ آئے پورں میں۔  
— میری انگلیوں میں تو چل سی ہونے لگی ہے۔

یہ شور کیسا ہے؟ منشی کو حلیماں کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ ریو الور بھر لو۔  
— بھرا ہوا ہے؟ ذرا جھانک کر دیکھو تو — یہ تو کسانوں کا ہجوم ہے

اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں درانتیاں ہیں۔ حلیماء کا باپ سب سے آگے ہے۔ پچھلی کھڑکی سے کود جاؤ۔ فائر کرنا بیکار ہے۔ ایک دو کو مار کر اپنی بوٹیاں نچواڈالنا دانائی نہیں۔ مصری کو اطلاع دو، بھئی حمزے راستہ دونوں — وہ آرہے ہیں، وہ بیٹھک کا دروازہ توڑ رہے ہیں؛ وہ ملک جی کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ حلیماء کو پکار رہے ہیں، گھوڑوں پر زمینیں کنسنے کی بھی ضرورت نہیں۔

حلیماء؟ تم حلیماء کو پوچھ رہے ہو؟ موت بیٹھک کا دروازہ توڑ رہی ہے اور تمہیں حلیماء کی پڑی ہے؟ سبحان اللہ! اور وہ تمہارے ساتھ بھاگے گی کیسے؟ وہ تو نئی کسان لڑکی ہے حمزے!

## (۵)

گھوڑے ہانپ رہے ہیں اور پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، مگر ہمارا ستانا ٹھیک نہیں۔ ہو سکتا ہے کسان ہمارے تعاقب میں ہوں، اور پھر ان کھیتوں میں ہماری لاشیں گدھوں کی خوراک بن جائیں۔ اور بھئی جو لاشیں بغیر جنازے کے ویرانوں میں پڑے پڑے سڑ جاتی ہیں وہ قیامت کے دن کون سا منہ لے کر اٹھیں گی۔ میں نے تو اس لئے جب بھی عید کی نماز پڑھی ہے، یہی دعا مانگی ہے کہ یا الہی! مجھے جنازے والی موت عطا فرما۔

بھئی لگائیں ڈھیلی رہنے دو۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہوں۔ اپنی جان بھی بچانا ہے اور ملک جی کو بھی بتانا ہے کہ وہ آرہے ہیں۔ اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور ان کے پاس تلی ہوئی درانتیاں ہیں۔

یہ وہی زمینیں ہیں جہاں حضور لارڈ مونت مورینسی صاحب بہادر کے گھوڑے اور ملک جی کے کتے دوڑتے تھے، اور اب انھی زمینوں پر وہ کنگلے

قلاش اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے! ہائے وہ کتنی بڑی قیامت ہو گی۔ ہو سکتا ہے  
حضرت اسرافیل اُس روز صُور پھونک دیں۔ اس قیامت سے پہلے مر جانے کو جی  
چاہتا ہے۔

تو کیا پھر ووٹوں کی دلالی نہیں ہو سکے گی؟ کیا ملک جی کے محل اور  
اصطبل سونے ہو جائیں گے؟ تو کیا اس روز سورج سوانیزے پر نہیں اترے گا؟  
جب یہ درانتیوں اور کھرپوں، ہلوں اور ہتھوڑوں والے گنوار بستی بستی پر چڑھ  
ووڑیں گے اور کولھو سے لے کر فولاد کے کارخانے تک کو سارے ملک کی  
ملکیت بنا لیں گے اور پٹوار خانے کی کھتوںیاں سب بیکار ہو جائیں گی!  
تو کیا انھی کسانوں اور مزدوروں میں سے کوئی فوج کی کمان بھی کرے  
گا؟ اور جب یہ لوگ باہر کے ملکوں میں لٹھ اٹھا کر جائیں گے تو دنیا نہیں ہنسے گی؟  
اور ان کی ایڑیوں کی دراڑوں سے رستا ہوا خون اس فرش کو گندہ نہ کرے گا  
جہاں میلکم ہیلی اور مونت مورینسی اور گلینسی صاحب بہادر آرام فرما چکے ہیں؟  
— تو یعنی کیا سارا حسن مر جائے گا؟ امیری کے سارے ٹھاٹ دھرے رہ  
جائیں گے؟ اور یوں اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے گا؟

یارو تم اب تک حلیمیاں ہی کی باتیں کئے جا رہے ہو۔ وہ تو ایسی بلا کی  
لڑکی تھی کہ معلوم ہوتا تھا اس کے جسم کا رُوواں رُوواں ڈنک ہے۔ اور پھر ایسے  
کسان بھی کہیں دیکھے ہیں کہ اپنے ملک صاحب کی جگہ جانے کس بھک منگے کو  
ووٹ دیں گے جسے اسمبلی ہال میں جانے کے لئے مانگے کی شیروانی بھی نہ ملے۔

ارے میری شیروانی کہاں ہے؟ وہ تو وہیں خنشی مانے ہی میں —  
منشی خانے ہی میں رہ گئی اسی میں تو تھا وہ پانچ ہزار کا پلندہ جو ہم پانچوں کو آپس  
میں بانٹنا تھا۔ حمزے! میرے ساتھ ساتھ چلو۔ میرا سر گھومنے لگا ہے۔ اور وہ منشی  
کا بچہ ان حرام زادوں کے ساتھ ملا ہوا ہے صاف۔ اب میں کون سا منہ لے کر  
ملک صاحب کے سامنے جاؤں۔

پانچ ہزار بھی وہیں رہے، حلیمہاں بھی وہیں رہی، عزت و آبرو بھی وہیں رہی، ووٹ بھی وہیں رہے۔ اگر ہم کچھ اپنے ساتھ لائے ہیں تو وہ ایک لرزہ ہے، ایک کپکپی ہے — اور ایک یقین کہ یہ ہمارے ملک صاحب کا آخری الیکشن ہے۔ یہ تمہارے ہدایت اللہ کی آخری دلالی ہے، اور دوستو! ان زمینوں پر تمہاری یہ آخری سواری ہے — اور مجھے اپنے عقب میں درانتیاں بھتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں۔ اور غضب خدا کا، جھپٹے کی دھند میں دوسری تاریخ کا چاند بھی دندا نے دار ہو رہا ہے۔!





## کہانی لکھی جا رہی ہے

میں بچے کو جھجھر میں سے پانی پلانے کے لئے رکا تو وہ میرے پاس آیا۔  
میں سمجھا وہ پیاسا ہے، اس لئے میں نے خاموشی سے جھجھر اس کی طرف بڑھا  
دی، مگر وہ مسکرانے لگا اور بولا ”نہیں، مجھے پانی نہیں چاہیے۔“  
وہ پگڈنڈی پر بہت آگے جا رہا تھا اور پلٹ کر میرے پاس آیا تھا اس  
لئے میں نے سوچا، اسے مجھ سے کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہیے ”کیا چاہیے تمہیں؟“  
میں نے بچے کو پانی پلاتے ہوئے پوچھا۔  
”کہانیاں۔“ وہ بولا۔

اور گاؤں چھوڑنے کے بعد شاید پہلی بار ہم سب مسکرائے۔ فاطمہ تو  
ہنسنے لگی۔ اسے مسکرانا آتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہنستی ہے۔ اب کے بھی وہ ہنس دی۔  
اتنی بھاری گٹھڑی اور دُکھتے پاؤں کے باوجود ہنس دی۔ اور فاطمہ کی طرف دیکھ  
کر وہ بولا :

”مجھے کہانی مل گئی۔“

فاطمہ اور زور سے ہنسنے لگی۔ بچے نے خواہ مخواہ اپنی ماں کی ہنسی میں  
شامل ہونا چاہا تو منہ کا پانی ناک میں آگیا۔ ہنسی اور کھانسی کے بین بین اس نے  
عجیب عجیب آوازیں نکالیں تو مسافر نے اسے اٹھالیا اور اس کے ننگے پاؤں پر جمی

ہوئی دھول کو اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ہوئے بولا ”تم کہاں جاؤ گے؟“  
 اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے کہاں جانا تھا! مجھے کہیں نہیں جانا تھا اور  
 ہر جگہ جانا تھا۔ میرے سفر کی کوئی سمت مقرر نہیں تھی۔ میں بگولے میں پھنسا ہوا  
 ردی کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں اپنے گاؤں سے نکل آیا تھا کیونکہ میں نے ایک  
 روایت سے بغاوت کی تھی۔ اب میں وہ کہانیوں والا گاؤں ڈھونڈنے چلا تھا  
 جہاں کے کھیتوں میں گیہوں کی بالیں موتیوں سے بھری رہتی ہیں اور کنواریاں  
 کھلیانوں پر بیٹھ کر اور درختوں میں چھپ کر الغوزے بجاتی ہیں اور منہ زور  
 گھوڑوں پر سوار ہو کر زمیندار زادے ان موتیوں کو لوٹنے اور ان الغوزوں کو  
 توڑنے نہیں آسکتے ہیں۔ وہاں زمیندار ہوتے ہی نہیں۔ وہاں خوبصورتی ہوتی  
 ہے اور امن اور خوشحالی اور فاطمہ کے قہقہے اور بچے کی تیلیاں، — وہاں  
 زندگی کے حسن کے دبدبے سے موت کو تھر تھری چھوٹ جاتی ہے۔

مگر میں اس سوئی ہوئی آنکھوں والے مسافر کو یہ سب کیسے بتاتا۔ میں  
 نے کچھ دیر تک اس کے سوال کا جواب سوچا اور جب کچھ نہ سوچ سکا تو فاطمہ  
 کی طرف دیکھا اور فاطمہ نے میری طرف دیکھا، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے  
 سے پوچھ رہے تھے کہ آخر ہمیں کہاں جانا ہے۔ بچہ مسافر کے کندھے پر سوار ہو  
 چکا تھا۔ اس نے ایک مٹھی میں مسافر کے بالوں کو جکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ  
 سے اس کی قمیص کا کالر مروڑ لیا تھا اور مسافر نے توازن قائم رکھتے ہوئے ایک  
 ہاتھ سے بچے کا گرد آلود پاؤں تھام لیا تھا اور دوسرے سے اس کی پیٹھ کو تھپتھپا  
 کر اپنا سوال دہرا رہا تھا: ”بھئی کہاں جاؤ گے تم لوگ؟“

اس مسافر کو آخر ہم سے کیا لینا تھا۔ یہ کون تھا جو بہت آگے جاتے  
 ہوئے پلٹ کر ہمارے پاس آیا تھا اور اب ہمارے بچے کو کندھے پر بٹھائے  
 اپنے سوال کے جواب کا منتظر تھا؟ فاطمہ اس کے کندھے پر سے بچے کو اتارنے  
 کے لئے بڑھی تو وہ بولا ”مجھے کچھ دیر تک تمہارے ساتھ چلنا ہے اور بچہ تھک

گیا ہے، اس کے تلوے جل رہے ہیں۔ میں جھیل کے کنارے ان درختوں تک تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مجھے تمہاری کہانی لکھنا ہے۔“

جھیل جسے نوجوان سورج نے ایک بیضوی سی پتری بنا کر دھندلے بھورے پہاڑ کے دامن میں ٹانک دیا تھا، ابھی بہت دور تھی، اور درخت تو اس سے بھی دور تھے کیونکہ وہ پرلے کنارے پر تھے اور یہاں سے دھوئیں کی ایک کترن معلوم ہو رہے تھے۔ اور اگرچہ پگڈنڈی ہموار وادی میں سے گزرتی تھی اور آس پاس دور دور تک سبزہ اگ رہا تھا جس پر ہلکے اودے رنگ کے کبوتر چہل قدمی کر رہے تھے اور مولے ہوا سے اتر کر ان پر لمبی لمبی دوڑیں لگا رہے تھے اور بھیڑیں اون کے ڈھیروں کی طرح جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھیں، اور رنگ رنگ کی ستلیاں جا بجا پروں کی پنکیاں چلا رہی تھیں مگر دھوپ بہت تیز تھی اور سفر لمبا تھا۔ اور پھر ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اگر اس پگڈنڈی میں سے کوئی دوسری پگڈنڈی نکل آئی تو ہم اس پر نہیں چل دیں گے۔ ہماری منزل جھیل کے کناروں پر درختوں کے چھتارے نہیں تھے۔ ہمیں تو اس گاؤں میں جانا تھا جہاں سنا ہے کہ گیہوں کی بالیاں موتیوں سے لدی رہتی ہیں اور جہاں زندگی مسکرائے تو موت کو تھر تھری چھوٹ جاتی ہے۔

ہم پگڈنڈی پر چپ چاپ چلنے لگے اور میں سوچنے لگا کہ کہانیاں تو بادشاہوں اور وزیروں اور امیروں کے بارے میں لکھی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں شہزادیاں چرواہوں کی تلاش میں نکلتی ہیں اور چرواہیوں پر شہزادے فدا ہو جاتے ہیں اور زندگی طوطے کے پیٹ اور سانپ کے پھن میں مقید رہتی ہے۔ یہ کیسا کہانیاں لکھنے والا ہے کہ حیران حیران پگڈنڈیوں پر چلنے والے لٹے ہوئے کسانوں سے کہانیاں لینے آیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بچے سے باتیں کر رہا تھا اور بچہ مارے جھجک کے گلابی ہوا جا رہا تھا۔ مسافر کہہ رہا تھا ”میں تمہیں اُس جادوگر کی کہانی سناؤں گا جس نے آسمان کو تاروں سمیت لپیٹ کر

اپنی بپتی میں رکھ لیا تھا اور جب بپتی میں بے چارے فرشتے کلبلا تے تھے تو وہ چیخ چیخ کر ہنستا تھا اور کہتا تھا ”ایک روٹی کا سوال ہے“ ایک روٹی ہر روز لا دو تو ابھی آسمان کا شامیانہ تانے دیتا ہوں“ — اب بچہ مارے خوشی کے گلابی ہو رہا تھا۔

میں نے ایک بار فاطمہ سے پوچھا تھا کہ آخر یہ لڑکا سوکھی روٹی اور پتلی چھاچھ پینے کے باوجود اتنا موٹا اور گلابی کیوں ہے؟ اور فاطمہ نے بتایا تھا کہ معصوم بچے فرشتے ہوتے ہیں اور ان فرشتوں پر خدا کا سایہ ہوتا ہے؛ اور پھر جب میں نے اسے قادر کے بچے کا حال بتایا تھا جو خیراتی ہسپتال میں مر گیا تھا اور جس کی جلد تک گل کر گرنے لگی تھی تو فاطمہ نے لپک کر اپنے بچے کو اٹھالیا تھا۔ اس کے گالوں سے اپنے گال یوں ملائے تھے جیسے اپنی جوانی کا سارا رنگ وہ اپنے بچے کے مساموں میں اتار رہی ہے — اور جب بچہ صرف جھکتے، شرماتے، حیران ہوتے اور مسکراتے ہوئے گلابی ہو گیا تھا اور اب میں سوچتا تھا کہ شاید کسی وقت حیرت اور مسرت کا یہ گلاب بھی مرجھا جائے اور بچہ اس پگڈنڈی کے کنارے صرف دم توڑتے وقت ہی گلابی ہو سکے، اور پھر سرسوں کے مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہوا میں اڑ جائے۔ ”مرتے وقت تو سب رنگ اڑ جاتے ہیں۔“ فاطمہ نے کہا تھا اور پھر چونک کر مجھے یوں ڈانٹا تھا جیسے اس نے بچے کو دودھ کی جگہ آب حیات پلا رکھا ہے اور وہ ان فاقوں اور لمبی مسافتوں اور موسم کی زیادتیوں کے باوجود زندہ رہے گا اور گلابی رہے گا۔

کچھ باتیں کرنے کے لئے میں تیزی سے چل کر مسافر کے برابر آ گیا تو جھجھج میں پانی چھلک اٹھا اور مسافر رک کر بولا — ”بھئی مجھے بھی پانی پی لینا چاہیے، جھیل تو دور ہی دور ہٹی جا رہی ہے۔“

فاطمہ حسب معمول زور سے ہنسی اور مسافر نے بچے کو کندھے پر سے اتار کر پانی پینے کے لئے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا۔ اور جب میں نے جھجھکے

دہانے پر سے گیلے چیتھڑے کا ڈھکنا اٹھایا تو فاطمہ بولی ”کیوں نہ ان سامنے کی بکائوں تلے ”دوپرا“ کر لیں۔ بھوک بھی لگی ہے اور ادھر کہیں سے کنویں کی رُوں رُوں بھی سنائی دے رہی ہے۔ جھجر بھی بھر لائیں گے۔“

مسافر نے ہاتھوں کا پیالہ توڑ دیا اور بولا ”سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو بہتے چشموں اور چلتے کنوؤں کا پانی پینے میں لطف آتا ہے۔ میں جھجر بھی بھر لاؤں۔ اور۔۔۔۔۔“

”اور تھوڑی سی آگ بھی مانگتے لانا۔“ فاطمہ نے بکائوں کے جھنڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اور میری طرف اشارہ کر کے بولی ”اسے چائے پینے کی لت ہے۔“

مسافر کے چہرے پر کچھ ایسا رنگ آ گیا جیسے اسے ایک اور کہانی مل گئی ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے میرے ہاتھوں سے جھجر لے لی اور رُوں رُوں کی آواز کی سمت معین کر کے ایک طرف جانے لگا۔ بچہ اس کے پیچھے بھاگا۔ فاطمہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اب مسافر کے کندھے پر سوار ہو چکا تھا اور مسکرا مسکرا ہمیں دیکھتا جاتا تھا۔

ہم بکائوں کے جھنڈ میں آ گئے۔ جا بجا بھیڑوں بکریوں کی میٹنیاں پڑی تھیں جو خشک ہو کر بڑا اچھا ایندھن بن گئی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا بھی گرمی سے گھبرا کر جیسے یہیں ”دوپرا“ کر رہی تھی۔ ساری وادی کی چڑیاں بھی یہیں جمع تھیں۔ ”بس ایک رکارڈوں والے باجے کی کمی ہے۔“ فاطمہ نے گٹھڑی اتار کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر ایک دم زور زور سے ہنستی ہوئی جھکی اور گٹھڑی میں منہ چھپا لیا۔ رکارڈوں والا باجا میری چڑ تھی۔ وہ یوں کہ شادی سے پہلے میں جاگیرداروں کے باجرے کے ایک کھیت میں چوری چھپے گھاس کاٹنے گیا۔ باجرے کے پودوں کے ارد گرد گھاس اتنی گنجان اور اونچی تھی کہ میں درانتی چلاتے ہوئے بالکل نشے کی سی حالت میں، ادھر ادھر دیکھے بغیر ناک کی سیدھ

میں آگے ہی بڑھتا گیا اور جب میں کھیت کے وسط میں پہنچا تو اچانک گھاس میں ڈوبی ہوئی میری درانتی کو کسی نے جکڑ لیا۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا تو سہمی ہوئی فاطمہ بیٹھی تھی اور اس کی درانتی کو میری درانتی نے جکڑ لیا تھا۔ وہ بھی چوری چھپے گھاس کاٹ رہی تھی، وہ بھی ناک کی سیدھ میں، نشے کی سی حالت میں بڑھی چلی آئی تھی۔ کچھ دیر سہمی رہنے کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کی نیتیں آنکھوں آنکھوں میں پڑھ لیں۔ میں تو خیر مسکرا دیا مگر فاطمہ اپنی ہنسی پر ضبط نہ کر سکی اور اگر اس کی پیٹھ پر لٹکی ہوئی چادر کی ”جھولی“ میں گھاس کا ایک انبار نہ ہوتا، تو وہ یقیناً ”ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں پیچھے لڑھک جاتی۔ مارے خوف کے میں نے اسے خاموش رہنے کو کہا، لیکن جب وہ ہنستی ہی چلی گئی تو میں نے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور وہ ایک دم خاموش ہو گئی، اور میں نے بھی اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیا۔ گنجان گھاس میں شراب کا سانشہ ہوتا ہے اور جب درانتی اس نشے کو بکھیرتی ہے تو اچھے اچھوں کو نیند آ لیتی ہے۔ شاید اسی لئے میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر فاطمہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور اب اپنے ہاتھ کو یوں پکڑے بیٹھا تھا جیسے پھول کے دھوکے میں انکارا چھو لیا ہے۔ بعد میں فاطمہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس روز اس کی ہنسی اچانک یوں رک گئی جیسے رکارڈ پر سے ”سون بکس“ اٹھا لیا جاتا ہے — پھر جب ہماری شادی ہوئی تو پہلے ہی روز اس نے رکارڈوں والے باجے کی فرمائش کر دی، اور جب میں نے فصل اٹھانے کے بعد کا وعدہ کر لیا اور فصل اٹھی — مگر یہ تو بہت لمبی بات ہے۔ کہنا صرف یہ تھا کہ وہ جب بھی مجھے چھیڑنا چاہتی، باجے کا ذکر کر دیتی۔ پہلے تو خیر میں خفا ہونے لگتا تھا، لیکن اب اس ہو جاتا تھا اور وہ جھینپ جاتی تھی۔ اب کے بھی اس نے میری طرف کچھ اس انداز سے دیکھا جیسے اس کے ہاتھوں سے کانچ کا پیالہ بے جانے بوجھے گر کر ٹوٹ گیا ہے۔

مجھے فاطمہ پر رحم آ گیا، میں نے اس کے گال تھپتھا دیئے مگر اس کی

آنکھیں بھیگ گئیں، اور آنسوؤں کو چھپانے کے لئے اس نے پلٹ کر چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ میں نے کہا ”فاطمہ! تم رو رہی ہو اور پھٹے ہوئے چولے میں تمہاری پیٹھ ہنس رہی ہے!“

وہ بے اختیار ہنس دی۔ ادھر اس کے گالوں پر آنسو پھیل گئے تھے۔ ادھر ہنسی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور اب میں اداس ہو گیا۔ مجھے فاطمہ سے ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ وہ اپنی کسی نہ کسی حرکت سے مجھے گزرے ہوئے زمانے میں لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ بالکل ایک ماں کی طرح میرا ماتھا چوم لیتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ گلی ڈنڈا اٹھا کر باہر میدانوں میں نکل جاؤں اور گلی پر ایسی ایسی زناٹے کی ضربیں لگاؤں کہ گلی ہوا میں سے سیٹی بجاتی ہوئی گزرے۔ پھر اسے ماہی کی بڑی کافر کلیاں یاد تھیں، — ”جنگل پھلا ہی ہو واں پئی پھٹاں بہاراں نا۔“ اور مجھے وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب ”پھلا ہیوں“ کے سائے تلے بیٹھ کر میں نے ان کی ننھی ننھی پتیوں کی خوشبوئیں پی ہیں اور دور خراش کے درختوں میں سے گزرتی ہوئی ہواؤں کے مسلسل گیت سنے ہیں اور یوں صبح سے شام کر دی ہے۔ انسان یا تو ساری عمر بچہ ہی رہے یا بوڑھا ہی پیدا ہو۔ کچھ کوں سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے۔

مسافر جھجر بھی بھر لایا اور دواپلوں پر آگ بھی رکھ لایا۔ وہ بچے کو کندھے پر سے اتار کر فاطمہ کو چولہا بنانے میں مدد دینے لگا تو میں نے اس سے رکارڈوں والے باجے اور فاطمہ کے رونے اور چولے میں سے اس کی جلد کی ہنسی کی ساری باتیں کہہ دیں۔ اصل میں وہ تھوڑی ہی دیر میں ہم سے کچھ ایسا گھل مل سا گیا تھا کہ بالکل اپنا لگتا تھا۔ فاطمہ جھینپتی رہی، مسافر ہنستا رہا، اور پھر جب میں نے گزرے ہوئے زمانے کو گالی دی تو وہ دھو آں چھوڑتے ہوئے ایلوں کی آگ کو زندہ رکھنے کے لئے اس میں پھونکیں مار رہا تھا۔ اس نے ایلوں کو چولھے میں رکھ دیا اور بڑا عجیب سا چہرہ بنا کر، بالکل انگریزی روپے والی

مورت کی سی صورت بنا کر، میرے قریب آیا اور بولا ”گزرے ہوئے زمانے کو گالی نہ دو گزرا ہوا زمانہ ہم سے کچھ نہیں چھینتا، کچھ نہ کچھ دے ہی جاتا ہے۔“ کوئی شخص یہ بات منبر پر کھڑے ہو کر کہہ دیتا تو مجھے حیرت نہ ہوتی، کیونکہ منبر پر کھڑے ہو کر تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اکثر بار قلُّ ہوا اللہ شریف پڑھنے سے انسان سیدھا جنت میں جاتا ہے؛ اور اگر جنت میں جانا اتنا ہی آسان ہوتا تو دوزخ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ گزرا ہوا زمانہ کچھ نہ کچھ دے ہی جاتا ہے! — خاک دے جاتا ہے، کچو کے، ٹیسیں، ٹھیسیں، — مجھے درانتی میں درانتی پھنسی محسوس ہوئی، اور پھر بچے رونے لگا۔ اسے ایک چیونٹے نے کاٹ لیا تھا۔ فاطمہ نے لپک کر بچے کے ٹخنے پر سے چیونٹے کو نوچا۔ اس کا دھڑا لگ ہو گیا اور سروہیں جلد میں گڑا رہ گیا، اور وہ اندھا دھند ہنسنے لگی، اور درانتی میں درانتی پھر پھنس گئی۔

”کیا دے جاتا ہے گزرا ہوا زمانہ؟“ میں نے مسافر سے پوچھا۔

”کچھ نہ کچھ تو دے ہی جاتا ہے۔“ وہ بولا، اور زمین پر سے چند خشک پتے اٹھا کر سوکھی ہوئی مینگنیوں سے بھرے ہوئے چولھے میں ڈال دیئے ”ارادہ دے جاتا ہے، اور امید اور امنگ اور عبرت۔“

مجھے وہ پھر منبر پر کھڑا نظر آیا۔

”بات یہ ہے“ اس نے بڑے اطمینان سے ادھر ادھر سے مینگنیاں جمع کرتے ہوئے کہا ”بات یہ ہے کہ بیل اور آدمی میں صرف ایک فرق ہے۔ آدمی سوچ سکتا ہے بیل نہیں سوچ سکتا۔“

”بیل تو دھڑلے سے سوچتا ہے۔“ فاطمہ نے گٹھڑی میں سے چائے کی

پتی نکالتے ہوئے کہا۔ ”ہمارا ایک بیل تھا، ہم اسے نقرہ کہتے تھے۔ جب ہم نقرے کو ہل پر لے جانے لگتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اور جب ہم اسے بہت تنگ کرتے تھے اور اس کی دم مروڑتے تھے اور اس کے جسم میں لکڑیاں چھوتے



تھے تو وہ لیٹ جاتا تھا؛ نقرہ پہلے سے سوچ لیتا تھا کہ اب بھادوں کی دھوپ میں دن بھر کھیتوں میں بھٹنا ہو گا۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ سوچتا تھا۔ — فاطمہ نے میری طرف اشارہ کیا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ مسافر بھی خوب خوب ہنسا۔ بچہ جس نے چیونٹے کا سر نوچ کر زخم پر خود ہی مٹی ڈال لی تھی، مسکراتا ہوا اس کے قریب آگیا اور میں اداس ہو گیا۔

چڑیاں اڑ گئی تھیں، دھواں جھکی ہوئی ٹہنیوں سے لپٹتا ہوا اوپر گھنے پتوں میں گھس رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے موٹے موٹے چیونٹے جھجر کے ارد گرد جمع ہو کر قیلوہ کر رہے تھے، ایلومینیم کی بھدی کیتلی میں سے اٹھتی ہوئی بھاپ میں چائے کی پتیوں کی خوشبو تھی۔ اور ہوا میں بکائوں کی خنکی تھی؛ ایک بھونرا کہیں سے آیا اور دھوئیں سے گھبرا کر زن سے نکل گیا۔ مسافر کھلی ہوئی گٹھری کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔

”یہ کیا ہے؟“ اس نے پوچھا۔

”سرمہ دانی۔“ بچہ بولا۔ اور پھر مسافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نئے سوال کا انتظار کرنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا اسے گٹھری میں بندھی ہوئی چیزوں کی ملکیت کا شدید احساس ہے۔

”میں لگالوں ذرا سا؟“ مسافر نے پوچھا۔

”ماں کا ہے۔“ وہ بولا۔ اور پھر بقراط بن گیا۔ ”دن کو نہیں

لگاتے سرمہ، جن عاشق ہو جاتا ہے۔“

”ارے“ ہم ایک دم ہنس دیئے اور بچہ جھینپ گیا۔

”میں نے دن ہی کو لگایا تھا سرمہ۔“ فاطمہ بولی، اور جاگیردار کے کھیت

سے گھاس چرانے چلی گئی تھی۔ ”فاطمہ اور مسافر یک بارگی اس زور سے ہنسنے،

اور فاطمہ کے مذاق سے میں کچھ ایسا چکرا گیا کہ نہ ہنس سکا اور نہ جھینپ سکا اور

یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان اور آلو میں صرف چونچ کا فرق رہ جاتا ہے۔

خوب جی بھر کر ہنس لینے کے بعد مسافر نے اب کے چیتھڑوں سے بنی ہوئی ایک گیند اٹھائی جس پر میں نے ریشم کے دھاگوں سے جالی کاڑھی تھی۔ ” یہ کیا ہے؟ “

”کھیلو گے؟“ بچے نے گیند چھین کر مسافر سے پوچھا۔  
 ”بکائوں تلے گیند کھیلا جائے تو پریاں عاشق ہو جاتی ہیں۔“ مسافر

بولاً۔

اور ہم سب ہنس دیئے۔ مگر بچے نے اچانک ایک تتلی دیکھ لی تھی اور گیند کو زمین پر پھینک کر وہ بکائوں تلے اس کے پیچھے ایک دائرے میں بھاگنے لگا۔ پھر تتلی باہر اڑ گئی تو وہ بھی باہر بھاگا اور دور تک بھاگتا چلا گیا۔

مسافر نے میری بنسری، میرے الغوزے، آئینے کا ایک ٹکڑا، سوئی دھاگے کی ننھی سی پٹاری، تیل کی شیشی جس کے دہانے پر مکئی کا نچا ہوا بھٹا پھنسا ہوا تھا، لکڑی کی کنگھی، چنے اور مونگ کی دال کی پوٹلیاں، غرض سب کچھ ایک ایک کر کے دیکھا اور پھر انہیں قرینے سے رکھ کر بولا: ”بس یہی کچھ ہے تمہاری پونجی؟“

”اور کیا ہوتی؟“ میں نے کہا۔

”کسان ہونا؟“

”ہاں۔“

”بیل کہاں ہیں؟“

میں خاموش رہا۔ خاموش رہنا ہی اچھا تھا۔ ہر انسان دکھی ہے، اور دکھوں کو بانٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھ سے مایوس ہو کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔

”بک گئے۔“ وہ بولی۔

”کیوں؟“ مسافر نے پوچھا۔

”رکارڈوں والا باجہ خریدنا تھا۔“ فاطمہ سنجیدگی سے بولی۔

”پر جاگیر دار نے کہا کہ یہ رقم اس کی زمین پر اگے ہوئے غلے کو ناجائز طور پر بیچ کر حاصل کی گئی ہے، وہی لے گیا۔“

”جن کا بچہ تو تھا وہ کم بخت“ مسافر نے اپنی طرف سے سنجیدگی اور اداسی کا خول توڑنا چاہا اور ہنسا، مگر فوراً اپنی ہنسی کی تنہائی محسوس کر کے بکائوں کے تنوں میں سے دور جھیل کو دیکھنے لگا۔

پھر جب مٹی کے دو پیالوں میں فاطمہ نے ہمیں چائے دی تو مسافر کے چہرے پر سختی سی آگئی، اور وہ جیسے بہت پریشان ہو کر بولا ”بھئی آخر تم کون ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے؟“

تتلی پھر بکائوں کے جھنڈ میں گھس آئی تھی اس لئے بچہ بھی بھاگا بھاگا وہاں پہنچا اور ہمارے سامنے چائے کے پیالے دیکھ کر اپنی کٹوری کے لئے مچلنے لگا۔ وہ ہر روز اس کٹوری کے لئے مچلتا تھا اور بد قسمتی سے اسے ہم گٹھڑی میں رکھنا بھول گئے تھے۔ مسافر نے اسے دلاسا دیا اور وہ چپ چاپ ایک سعادت مند شاگرد کی طرح مسافر کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گیا۔

اس وقت دھوپ سنہری ہو گئی تھی اور میدان میں اکا دکا درختوں کے سائے ان کے قدموں سے لہجے ہو گئے تھے۔ چڑیوں کا غول پھر سے بکائوں سے جھنڈ پر اتر آیا تھا اور خوب توتو میں میں ہو رہی تھی۔ پگڈنڈی پر ایک عورت اور ایک مرد جا رہے تھے۔ عورت کے سر پر چرخہ تھا اور مرد نے گٹھڑی میں روئی کا ایک ڈھیر باندھ کر اسے پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ دونوں خوب باتیں کرتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک بکائوں کی بھینگوں پر کسی نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ تیز چھرر کی آواز پیدا ہوئی، چند تپتے ہوا میں ڈبکیاں لگاتے ہمارے آس پاس آن گرے۔ چڑیاں بہت سی گیندوں کی طرح فضا میں بکھر گئیں، اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔

مسافر جو اپنے سوال کے جواب کے انتظار میں ابھی پیالے کو لبوں تک نہیں لے جا سکا تھا، میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اور میں نے اس کے دوسرے سوال کا جواب دیا۔ ”بازیا شکر اچڑیوں پر جھپٹا ہے۔“

”اور شکرے پر کون جھپٹتا ہے؟“ مسافر نے سنجیدگی سے پوچھا۔

”چڑیاں ایکا کر لیں تو اس پر جھپٹ سکتی ہیں۔“ فاطمہ نے جواب دیا۔

شکر اذرا بڑی قسم کی چڑیا ہے نا۔ — اور آخر چڑیا ہی ہے نا۔“

”چائے پیو بھئی۔“ میں نے کہا۔ بات خواہ مخواہ ایک ایسا رخ اختیار کر

رہی تھی جب جڑے بھنچ جاتے ہیں اور کپٹیوں میں فیتلے سے جل اٹھتے ہیں۔

وہ چائے پینے لگا، لیکن کچھ اس طرح جیسے کہانی سوچ رہا ہے۔ پھر وہ

بچے کو بھی اپنے ہی پیالے میں سے چائے پلانے لگا۔

”تمہیں کہاں جانا ہے؟“ مسافر اپنی ہٹ پر بدستور قائم تھا۔

فاطمہ میری طرف دیکھنے لگی۔ چڑیوں پر شکرے کے حملے کے بعد اس

کی وہ مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی جو اس کے لبوں کے گہرے گوشوں میں

ہمیشہ دبکی رہتی تھی۔ وہ نہایت سختی سے بولتی ”بتاتے کیوں نہیں صاف صاف کیا

تم چوری کر کے آرہے ہو؟ کیا کوئی ڈاکہ ڈالا ہے تم نے؟ تم نے کسی کا کچھ نہیں

بگاڑا، خدا کو یہی منظور تھا۔ پھر تم اسے چھپاتے کیوں ہو؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ

جاگیرداروں نے تم سے زمین چھین لی ہے اور گاؤں سے نکال دیا ہے۔ اور اب

ہم — اب ہم جانے کہاں جا رہے ہیں۔ تمہارے گھٹنے پر چیونٹا چڑھ گیا

ہے، جھٹک دو اسے۔“

میں نے چیونٹے کو جھٹک دیا اور چائے پی کر اطمینان سے بولا۔ ”بات

یہ ہے بھائی!“ اور پھر میں سورج کی طرف دیکھ کر چونکا ”بات یہ ہے کہ دیر ہو

رہی ہے، ہمیں شام تک کسی آبادی میں پہنچ جانا چاہیے۔“

لیکن اس روز تو میں فاطمہ کی ضد دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلی بار میں

نے اس کی بھووں کے درمیان شکن دیکھی۔ وہ زور زور سے بولنے لگی  
 ”ارے کتراتے کیوں ہو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ چار راتیں ویرانے میں گزار دیں  
 اور آج آبادی تک پہنچنے کی دھن سوار ہے۔ وہاں آبادی میں ہمارا ابا بیٹھا ہے  
 کہ پلنگ بچھا دے گا اور شربت گھول دے گا؟ — پگلا۔“

اس نے کیتلی کو یوں جھٹکا دے کر اٹھایا کہ اس کی ٹونٹی سے گھونٹ بھر  
 چائے گر گئی۔ پھر وہ خالی پیالہ بھر کر بولی ”بات یہ ہے بھیا کہ ہم بہت دکھی ہیں۔  
 تصور یہ ہے ہمارا کہ ہم جاگیردار کے جن کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں ان کی  
 پیداوار کا ایک چوتھائی حصہ ہمیں ملتا ہے اور اس کی ایک چوتھائی میں سے کئی  
 نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں۔ باپ دادا کے زمانے سے یہی دستور چلا آتا ہے؛  
 اس نے چند سر پھروں سے مل کر شور مچایا کہ ہم اب کی پیداوار کا آدھا حصہ  
 لیں گے۔ اس نے اپنا حق مانگا تھا پر —“ اس کی آنکھیں اچانک چمک  
 اٹھیں — ”پر شکرے پر جھپٹنے کے لئے سب چڑیوں کا ایک بھی ضروری ہے  
 اور یہ تھے کل چار پانچ سر پھرے۔ جاگیردار کے کان میں اس کی بھنک پڑی تو  
 اسے پٹوایا بھی اور گاؤں سے بھی نکال دیا۔ اس کے دو ساتھی زخموں سے چور  
 قصبے کے ہسپتال میں پڑے ہیں۔ اور ہم چار روز سے سفر کر رہے ہیں‘ —  
 یونہی — بس چلے جا رہے ہیں۔ بچے چلتے چلتے اودھ مٹا ہوا جاتا ہے تو ہم اسے  
 اٹھا لیتے ہیں‘ اور پھر خود اودھ موئے ہو جاتے ہیں۔ اس کو وہ مار پڑی ہے کہ  
 زخم نظر نہیں آتا پر دکھن ہڈیوں میں اتری ہوئی ہے۔ زور سے ہنسنے تو پسلیاں  
 پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سب عزیز رشتہ دار جاگیردار کے مزارع ہیں۔ ہم سے  
 ہمدردی کرتے ہو پٹتے بھی اور گاؤں سے بھی نکلتے۔ یہ کہتا ہے کہ خدا کی زمین  
 تنگ نہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جاگیردار کی زمین تو تنگ ہے نا۔ اور خدا کی ساری  
 زمین آج جاگیردار کی زمین ہے‘ پھر ہم کہاں جا کر سر پھوڑیں گے؟ ہزار بار کہا  
 کہ پلٹ چلیں‘ باپ دادا کا پسینہ جس زمین پر ٹپکا ہے‘ اسی میں برکت ہے‘ پر یہ

ہے کہ بس ایک بزدلی سوار ہے اور —

”اے فاطمہ!“ میں نے اسے شاید پہلی بار گھر کا اور اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں گارڈیں، مجھے جکڑ لیا، مجھے گزرے ہوئے زمانے کی طرف گھسیٹ لے گئی اور میں نے مسافر کی پروا کئے بغیر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، ”فاطمہ آگے میں بتاتا ہوں، تم چائے پی لو۔“

فاطمہ نے ایک ہی سانس میں پیالہ پی کر کیتلی چھلکائی اور پیالے کو پھر بھرنے لگی۔

میں نے فاطمہ ہی کی باتیں دہرا دیں اور آخر میں کہا ”جانتا ہوں کہ ان جھیلوں اور پہاڑوں سے پرے میرے لئے فاقوں کے سوا اور کچھ نہیں؛ پر سچی بات کہوں، میں پلٹ کر گاؤں نہیں جاؤں گا۔ معافی مانگنے کو ذلت سمجھتا ہوں اور معافی نہ مانگوں تو اکیلا ہوں۔ میرے ساتھی ہسپتال سے بچ کر نکلے بھی تو نکلتے ہوں گے بے چارے۔ ان کی ٹانگوں اور باہوں کے ٹوٹنے کی آواز خود میں نے سنی ہے۔ اور کسانوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ان ہسپتالوں میں نہیں جڑ سکتیں۔ گھوڑے سے گر کر جاگیردار کی کھوپڑی ٹوٹی تھی تو ہڈیوں کی کرچیاں تک جڑ گئی تھیں، دولت کے معجزے ہیں۔“

مسافر تنکے توڑے جا رہا تھا۔ اوپر چڑیوں نے پھر سے غل مچا دیا تھا۔ بچہ ایک اور تتلی کے تعاقب میں پگڈنڈی تک جا پہنچا تھا۔ فاطمہ پیالے دھو کر گٹھڑی میں باندھ رہی تھی۔ مسافر نے میری طرف نہایت آزر دگی سے دیکھا اور بولا ”آج کل میں جہاں بھی گیا ہوں، پرانے مزارعوں کو زمینوں سے نکالا جا رہا ہے۔ تمہاری ہڈیاں ٹوٹی ہیں، وہاں گھروندے جلے ہیں اور مزارعوں کی بیٹیوں کی عصمتیں لٹی ہیں۔ تم لوگ اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بغیر میدان میں کود پڑے ہو۔ شیر بھی اپنے شکار پر سوچ کر جھپٹتا ہے۔ اور پھر تم زمینداروں سے ہزار الجھو، پٹواری کی کھٹونی تو ہمارے بس میں نہیں، وہاں قانون کا پہرہ ہے۔“

لیکن یہ ایسی فکر کی بات بھی نہیں۔ یہیں کہیں کسی دوسرے گاؤں میں تمہیں زمین مل جائے گی۔ زمینداروں کو نئے مزارعوں کی ضرورت ہے پرانوں کی جگہ۔“

”شرم نہیں آتی؟“ فاطمہ چلا اٹھی۔

مسافر تورا سا گیا اور میرے جی میں آئی کہ گٹھڑی اٹھا کر فاطمہ کے سر پر دے ماروں۔ اس نے مسافر کو یوں ڈانٹا تھا جیسے وہ کوئی بچہ ہے، اور اسی کا بچہ ہے۔ پھر اس نے اسی پر اکتفانہ کی بلکہ بولتی چلی گئی ”اچھی خاصی سمجھ بوجھ کی باتیں کر رہے تھے تم، اور اب ایسی کمیننی باتوں پر اتر آئے!“ میں غصے سے اٹھ کھڑا ہوا مگر وہ بولے چلی گئی ”میں تو خاک چاٹ لوں گی پر کسی مزارع بھائی کا حق نہیں ہتھاؤں گی۔ ہمیں بھی تو زمینداروں نے نکالا ہے۔ پھر ہم ایسے دکھی بنے پھرتے ہیں اور قسمت کو کوس رہے ہیں اور رو رو دیتے ہیں، تو ہم ان کا کیوں خیال نہ کریں جن کے گھروندے جلے ہیں، جن کی بیویوں اور بیٹیوں سے“ فاطمہ کا گلا رندھ گیا، اس کی آنکھیں بھیک گئیں۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اس لئے اس کے پوٹوں کے آس پاس ابھرتی ہوئی نمی بھی سرخ تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا۔ جیسے سچ مچ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ پھر وہ جیسے ان آنسوؤں کو پی کر بولی ”میں تو کہتی ہوں کہ اسے جینا ہے عزت سے، تو انہی لٹے ہوئے مزارعوں کو جمع کر کے جاگیرداروں سے اپنا حق مانگے نہیں، چھین لے، نوچ لے، جھپٹ لے۔ اور اگر ایسا ہی دھن کا پکا ہے اور آسمان سے نئے نئے کھیتوں کے اترنے کا منتظر ہے تو پھر ناک کی سیدھ میں چلتا جائے۔ میں مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گی، اس کے بعد کی خبر خدا جانے۔“ اس نے گٹھڑی اپنے سر پر رکھ لی اور بولی ”چلو چلیں۔“

پھر اس نے دور پگڈنڈی پر حیران کھڑے ہوئے بچے کو پکارا۔ ”چراغ۔“

اے چراغ!

مسافر کی ساری تلخی اس نام نے دھو دی۔ فاطمہ کے تیوروں نے اس کا رنگ فق کر دیا تھا اور جیسے وہ ان ساری کہانیوں کو ایک دم کھو بیٹھا تھا جو اس نے ہم سے مل کر جمع کی تھیں۔ مگر اب تو جیسے بچے کے نام میں اسے ایک اور کہانی مل گئی۔ ”چراغ!“ وہ حیران ہو کر بولا ”بچے کا نام چراغ ہے؟“

مسافر کی اس معصوم حیرت نے فاطمہ کی تلخی کو بھی جھٹک دیا۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی ”دیہاتی نام ہے بھائی، حیران کیوں ہوتے ہو؟“

”حیران کہاں ہو رہا ہوں۔“ مسافر بچے کو بکائوں کے جھنڈ کی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ ”میں تو خوش ہوا ہوں۔ بہت پیارا نام ہے، بڑا بامعنی ہے۔ نئی نسل کے بچوں کے نام ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ خادم اور غلام قسم کے ناموں سے بزدلی اور کمتری پیدا ہوتی ہے۔ چراغ میں روشنی ہے اور گرمی ہے، اور خوبصورتی ہے۔ چراغ بڑا پیارا نام ہے۔“ اس نے اداس بچے کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھالیا۔ ”اچھا تو تمہارا نام چراغ ہے؟“

بچہ جواب تک اپنے جذبات کو ہونٹوں کی کپکپی سے سنبھالے ہوئے تھا، رو دیا ”ایسی اچھی تتلی تھی، ایسے پیارے پیارے رنگ تھے۔ سور کی بچی ایسی تیز اڑتی۔“ تھی حرام زاوی۔“

فاطمہ حسب معمول ہنسنے لگی۔

میں نے چراغ کو تسلی دیتے ہوئے کہا ”دیکھو تو جھیل تک سبزہ ہی سبزہ ہے۔ ہمیں راستے میں سینکڑوں ستلیاں ملیں گی۔“

مسافر بولا ”میں یہ ساری ستلیاں چراغ کے لئے جمع کر لوں گا ایک پٹاری میں۔“ میں کہانیاں بھی چنتا ہوں اور ستلیاں بھی پکڑتا ہوں۔“

کتنی ستلیاں چاہئیں؟“

بچے نے اٹے ہاتھوں سے آنسو پونچھ لیے تھے اور اپنی سرخ ناک کو



مل رہا تھا۔

اور جب ہم بکائوں کے اس جھنڈ سے نکلے تو مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں اپنا مٹی کا کچا گھروندا چھوڑ رہا ہوں۔ اس وقت سورج نے جھیل کی سطح پر آگ لگا دی تھی۔ مغرب کی طرف جھک جانے کی وجہ سے وہ اپنی ساری شعاعیں جھیل میں انڈیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور جیسے دن اب صرف جھیل کی چمک ہی سے روشنی حاصل کر رہا تھا؛ میں سوچنے لگا، یہ مسافر کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کے ماں باپ، بھائی بہن کہاں ہیں! یہ اپنے دوستوں کو کہاں چھوڑ آیا ہے! اور کیا کہانیاں چننے سے اس کی بھوک مر جاتی ہے؟

میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ فاطمہ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور اس کے کانوں پر بالوں کے سیاہ گچھوں کو دھوپ نے سنہری کر دیا تھا۔ اور چراغ دونوں ہاتھوں سے اس کے بالوں کو جکڑے ہوئے تھا اور وہ اس سے کہہ رہا تھا ”تم چراغ ہو، تم روشنی ہو، تم گرمی اور حسن ہو، سمجھے؟ وہ جھیل سے پرے، اس بھوری بھوری دھند سے بھی پرے، ان پہاڑوں سے بھی پرے ایک افق ہے، اسے مستقبل کہتے ہیں، اس مستقبل کو تمہاری روشنی اور تمہاری گرمی اور تمہارے حسن کی ضرورت ہے۔ وہ تمہاری راہ تک رہا ہے، سمجھے؟ سمجھے چراغ؟“

چراغ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔

”وہاں ایسے گاؤں ہیں جہاں کھیتوں میں گیہوں کی بالیں موتیوں سے

لدی رہتی ہیں۔“

”تو کیا لوگ وہاں موتی کھاتے ہیں بے چارے؟“ فاطمہ نے پلٹ کر

پوچھا اور گٹھری کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اور اس

کی سنہری باہوں پر سے ڈھیلی آستینیں سرک کر اس کے کندھوں پر آگریں۔

اور مجھے اس نے ایک دم ماضی کے پاتال میں دھکا دے دیا، جہاں وہ گوہیا میں

پتھر رکھ کر اسے گھماتی تھی تو اس کا سچے سونے کے سے رنگ کا بازو بجلی کی طرح  
لشکارے مارتا تھا۔ اور جب وہ گو بھیسا کا ایک سرا چھوڑ کر پتھر کو باجرے کے لمبے  
لمبے پودوں میں ڈبو دیتی تھی، اور رہن چڑیاں دور دور بکھر جاتی تھیں تو وہ کہتی  
تھی ”جی چاہتا ہے ہر چڑیا کو باجرے کا ایک شادے دوں اور ان سے کہوں کہ  
کم بختو! ڈاکے نہ ڈالا کرو“ شریف بنو۔ اور باجرے کے یہ سٹے جو اب کے میری  
باہوں کے برابر لمبے ہیں، کم از کم ایک ایک مہینے کے لئے تو تمہیں کافی ہوں  
گے۔“ اور میں شرارت سے کہتا تھا ”چلو ٹھیک ہے، چڑیوں کو تو باجرے  
کا ایک ایک شادے دیا تم نے، پر بے چارے چڑے؟“ وہ ہنستے ہنستے  
زمین پر لوٹ جاتی اور اس کی آنکھیں مارے ہنسی کے بھیگ جاتیں۔ وہ اپنے  
پیٹ اور پسلیوں کو دباتی اور ہنستی جاتی۔ اس کا رنگ گلابی ہو جاتا اور پھر نیلا  
پڑنے لگتا اور وہ بڑی مشکل سے کہہ پاتی ”اچھا وہ چڑے! وہ مسٹنڈے کم بخت  
وہ تمہارے ہوتے سوتے!“

اس وقت بھی اس کا بازو مجھے ایک کوندا، ایک شعاع، ایک کرن  
معلوم ہوا اور وہ چمکتی ہوئی جھیل کا ایک حصہ معلوم ہونے لگی، جیسے اس جلتی  
ہوئی جھیل میں سے ایک لہر چھلک کر پگڈنڈی پر آگئی ہے اور اب واپس جھیل  
کی طرف ہی جا رہی ہے۔

وہ پھر بولی ”میں تو چراغ کو اس نگری میں کبھی نہ بھیجوں جہاں گیہوں  
کی جگہ موتی چبانے کو ملیں۔“ اور پھر ہنسنے لگی۔

اور مسافر نے پلٹ کر میری طرف یوں دیکھا جیسے میری بیوی نے اس  
کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے، اس سے ساری کہانیاں چھین لی ہیں، اس کی ساری  
ستلیاں مسل ڈالی ہیں۔ میں جواب میں مسکرا دیا تو اس نے گھبرا کر چراغ کو  
دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے کہا ”میرا مطلب تو یہ تھا کہ مستقبل میرا یا  
تمہارا نہیں، چراغ کا ہے۔ ہم تم تو وقت کے ریلے میں بہتے ہوئے تنکے ہیں، ہوا

کے بہاؤ میں گھرے ہوئے کوئل کے نچے ہوئے پر ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر کچھ بھی تو اختیار نہیں، ہم تم سب بے بس ہیں۔ اب دیکھو، تمہیں جاگیر دار نے ان کھیتوں سے نکال دیا ہے جن کی مینڈھوں سے اب تک تمہارے باپ دادا کے خون پسینے کی مہکار اٹھ رہی ہے۔ جہاں تمہارے گیت دفن ہیں، اور تمہاری امیدوں کے پنجر بکھرے ہوئے ہیں۔ اور زمیندار کو تمہیں ان کھیتوں سے نکالنے کا حق اس لئے ہے کہ مغلوں کے زمانے میں اس کے کسی بزرگ نے کسی شکاری شہزادے کی پیاس بجھادی ہوگی، یا انگریز کے زمانے میں اس نے گورنر کی آمد پر گلیوں میں شالباف بچھا کر دونوں طرف ادھ ننگے مزارعوں کو سلامی کے لئے سجایا ہو گا اور یہ انعام پایا ہو گا۔ یا اتحاد پارٹی کے زمانے میں قوم سے بغاوت کی ہوگی اور بدلے میں یہ مرنے ملے ہوں گے۔ یا اب لیگ راج میں اس نے کسی لیڈر کی دعوت پر — ”مسافر نے ٹھٹھک کر ایک طرف دیکھا، چراغ کو کندھے پر سے اتار دیا، لپک کر ایک جھاڑی کے پاس گیا اور جھپٹ کر جیسے اس کی کونپلیں نوچ لیں۔ وہ بچوں کی طرح کودتا ہوا آیا اور چراغ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا ”تلیاں چراغ، تلیاں! اکٹھی دو، سرخ اور سبز۔ مجھے تو یہ دو کہانیاں لگتی ہیں۔ دو شعر، دو تصویریں — یہ لو!“

چراغ مارے خوشی کے پھول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رنگ آ گیا تھا، جیسے وہ روزانہ مکھن کھاتا ہے اور شہد پیتا ہے۔

اُس وقت فاطمہ کہیں دور دیکھ رہی تھی۔

”چلو چلیں۔“ مسافر نے چراغ کو کندھے پر بٹھا کر مجھ سے کہا۔

”فاطمہ!“ میں نے فاطمہ کو پکارا، مگر وہ آنکھوں پر ہاتھ کاسایا کئے کہیں

دور دیکھ رہی تھی۔

مسافر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ فاطمہ چلائی ”دیکھو دیکھو!“

ہم سب جھیل کی طرف دیکھنے لگے۔

فاطمہ چلاتی رہی ”یہ دھمک سی کیسی ہے! یہ کس کی چاپ ہے!“  
ہم نے دیکھا کہ جھیل کی سطح پر آگ کو گردو غبار نے بچھا دیا تھا اور  
سورج اس غبار میں تانبے کی پرانی تھالی کی طرح بے رونق اور بے نور تھا۔ یہ  
غبار بلند ہو رہا تھا اور قریب آ رہا تھا اور ساتھ ہی جیسے پگڈنڈی پھیل رہی تھی،  
دھرتی دھڑک رہی تھی اور غبار میں سے چھنتا ہوا دبا دبا شور واضح ہوتا جاتا تھا۔  
اس غبار میں سے گیت پھوٹ رہے تھے اور ان کی ڈوبتی ابھرتی گونج سے کم از  
کم میرے دماغ میں تو لہو ناچنے لگا تھا۔ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ جیسے بازو  
تول کر ان سے شہپروں کا کام لینے لگی۔ چراغ کی مٹھی ڈھیلی ہو گئی تھی، اور  
تتلیوں کے سرخ اور سبز پر مسافر کی قمیص کے کاروں میں اٹک گئے تھے۔ مسافر  
کامنہ کھلا تھا اور چہرہ فق تھا۔

”یہ کون ہیں؟“ اس نے پوچھا۔

”جانے کون ہیں!“ میں نے جواب دیا۔

”مزارعے ہیں اور کون ہیں۔“ فاطمہ مشین کی طرح بولی۔

پھر اچانک وہ اس شدت سے چلائی کہ میں نے آج تک اس کی اتنی  
تیز و تند آواز نہیں سنی تھی: ”ہماری ہے۔“ وہ چلائی — ایک لمحے کے بعد  
وہ پھر اسی زور سے چلائی ”ہماری ہے“ — اور میں اس سے اس پاگل پن  
کی وجہ پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ ایک بار پھر گرجی ”ہماری ہے۔“

گردو غبار میں سے بلند ہوتا ہوا شور بالکل واضح ہو گیا۔ ایک آواز آئی

”زمین کس کی ہے؟“

اور میں فاطمہ سے مل کر چلایا ”ہماری ہے۔“

اور فاطمہ گٹھڑی کو میری طرف پھینک کر پگڈنڈی پر دیوانوں کی طرح  
بھاگنے لگی اور میں گٹھڑی کو مسافر کے پاس رکھ کر فاطمہ کے پیچھے بھاگنے لگا اور

چراغ مچل کر مسافر کے کندھے پر سے اترا اور میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ ”ہماری ہے“ وہ بھی ہمارے ساتھ چلایا۔

یہ ایک اڈتا ہوا ہجوم تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں کدالیں اور پھاؤڑے اور درانتیاں اور کندھوں پر ہل تھے؛ ان کی آنکھوں میں آگ اور چروں پر گلاب تھے۔ وہ جھیل میں سے نکلنے ہوئے معلوم ہوتے تھے، جیسے جھیل نے بے قرار ہو کر اپنی طپاں لہروں کو سیلاب کی صورت میں دھرتی پر انڈیل دیا تھا اور یہ سیلاب جھیل کے سونے کو ساری دھرتی پر پھیلانے کے لئے اڈ پڑا تھا۔ سب سے آگے عورتیں تھیں، ان کے پیچھے نوجوان تھے، کہیں کہیں بوڑھے بھی نظر آ جاتے تھے جو اپنی سفید ڈاڑھیوں کے باوجود جوانوں کی تیز رفتاری کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان کے چروں اور سینوں پر پسینے کے موتی تھے اور ٹانگوں پر گرد جم رہی تھی، اور وہ اپنا حق مانگنے کے بجائے چھیننے نکلے تھے۔ دھرتی کو آباد کر کے خود اجڑے رہنا انہیں اب قبول نہ تھا۔ گیہوں کے موتیوں کے ڈھیر تخلیق کرنے کے بعد خود دھول پھانکنے سے وہ اب انکار کر رہے تھے۔

— ایک نوجوان گرجتا تھا: ”زمین کس کی ہے؟“ — اور سب مل کر اپنے ہل اور درانتیاں اور کھرپے اور کدالیں اوپر اٹھاتے تھے اور یک زبان ہو کر دھاڑتے تھے: ”ہماری ہے۔“ — اور جیسے افق تا افق یہ آواز طرارے بھرتی ہوئی پھیل جاتی تھی، اور پھر دھرتی کی طنابیں کھینچتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔

اور جب فاطمہ اور میں اور چراغ اس ہجوم کے قریب پہنچے تو ان کے نعروں میں زیادہ جوش، زیادہ تندی اور زیادہ حدت آگئی۔ یہ نعرے ہی ہمارا تعارف تھے۔ کسانوں نے کسانوں کو پہچان لیا تھا اور جب فاطمہ عورتوں کے ہجوم میں مل گئی اور میں چھلکتی ہوئی جھجر کو پہلو میں دبائے نوجوانوں میں آگیا، تو ایک گیت شروع ہو چکا تھا۔ پھر جب یہ گیت ختم ہوا تو ہم مسافر کے قریب سے

گزر رہے تھے۔

وہ پگڈنڈی پر اسی جگہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ فق تھا، اس کا منہ کھلا تھا، اس کی قمیص کے کالروں پر تتلیوں کے پر اسی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ اس نے فاطمہ کی گٹھڑی کو ایک ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور جیسے غنودگی میں ہمارے نعروں کے جواب میں اس کے لب بھی ہلتے تھے۔ پھر جب ہم کافی دور نکل آئے اور مجھے بکائوں کا جھنڈ بھی نظر آنے لگا تو میں نے پلٹ کر دیکھا کہ مسافر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہجوم کے آخری حصے میں مل گیا ہے۔

اچانک مجھے چراغ کا خیال آیا۔ اس ہجوم میں اس کے کچلے جانے کے خیال نے مجھے حواس باختہ کر دیا اور میں لپک کر ہجوم سے باہر آ گیا۔

اور میں نے دیکھا کہ چراغ سب سے آگے، عورتوں سے بھی آگے، بالکل ایک سپاہی کے ٹھاٹ سے اکڑا کڑ کر چل رہا ہے، اور نعرے کا جواب دیتے ہوئے اپنا بازو اٹھا کر ہوا میں پھیلا دیتا ہے۔ اور اگرچہ بے شمار تتلیاں اس کے آس پاس منڈلا رہی ہیں، لیکن وہ دھول پھانکتا ہوا بڑھا جا رہا ہے، اور اس قافلے کی رہنمائی کر رہا ہے جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، اور اس سرمئی جھپٹے میں مسلسل آگے بڑھ رہا تھا جس کے آخری سرے پر نئی صبح کی چاندی اور نئے سورج کا سونا اور نئے چیت کے موتی تھے۔

فاطمہ نے شاید میری حواس باختگی کو بھانپ لیا تھا اور جب میں واپس ہجوم میں شامل ہونے لگا تو اس کی بے تحاشہ ہنسی کی آواز آئی۔ اس آواز میں ایک پراسرار چھناکا تھا جیسے زنجیریں ٹوٹی ہیں اور تلواریں ٹکراتی ہیں اور گھنٹیاں بجتی ہیں!



## راجہ مہاراجے

(اس افسانے کے مقامات فرضی ہیں، لیکن کردار حقیقی ہیں)

لنگی ہوئی بھوؤں کے پیچھے استانی کی آنکھیں چمکیں اور پوپلے منہ میں مڑے ہوئے ہونٹوں نے الگ ہوتے ہوئے چٹکی سی بجا دی — ”کیا تم شریروں نے مجھے اسی لئے برسوں کی نیند سے جگایا اور مجھے میری گھٹا سے اٹھا لائے کہ مجھ سے مذاق کرو؟ کم بختو! میں تو تمہارے جھگڑے چکانے آئی تھی — اب ذرا میرے سامنے تو آئے وہ ماں کالاڈلا جسے چاند کی سیاحت سو جھی ہے!“ — استانی کے چہرے کی جھریاں کمانیں بن گئیں اور الفاظ تیروں کی طرح لپکنے اور سنسنانے لگے — ”کون جانا چاہتا ہے چاند پر؟“

استانی اور تینوں لڑکے ننھے ننھے جزیروں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان جزیروں کو ندیوں نے ایک دوسرے سے جدا کر رکھا تھا، مگر یہ ندیاں اتنی پتلی پتلی سی تھیں کہ اگر وہ چاہتے تو ایک دوسرے سے بہ آسانی مصافحہ کر سکتے تھے۔

استانی ان تینوں کے درمیان بھیگی ہوئی گھاس سے اٹے ہوئے ایک ٹیلے پر بیٹھی تھی۔ وہ بے حد تھکی ماندی اور نڈھال نڈھال تھی، اور کبھی کبھی ماتھے پر سے پسینہ پونچھنے کے لئے ہاتھ یوں اٹھاتی تھی جیسے اگر پسینہ ہاتھ اٹھائے بغیر خشک ہو جاتا تو اسے بہت خوشی ہوتی۔ — ”کون جانا چاہتا ہے چاند پر؟“ اس کی آواز میں بڑھاپے کے باوجود عجیب طراری تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے استانی کے عقب میں کوئی نوجوان عورت بیٹھی ہے جو بولتی ہے تو استانی اپنے ہونٹ ہلا دیتی ہے۔

رکی یوں اٹھا جیسے وہ اٹھنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وہ نہایت ادب سے منمنایا ”جانا تو شاید سب چاہتے ہیں ماں! پر بولا میں تھا۔ میں چاندی اور چاندنی کی اس نگری کو جانے کے شوق کو دبانہ سکا۔ اور پھر میں جا بھی سکتا ہوں۔“

استانی چونکی ”جا بھی سکتے ہو؟ چاند پر؟ کیسے؟“

خلوف نے اپنے سر کے خشخشی بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا ”میں بتاؤں ماں؟ انسانوں کی لاشوں کے مینار بنا کر۔“

رکی غرایا ”بکو اس مت کرو خلوف۔“

اور خلوف بے پروائی سے بولتا چلا گیا ”رکی نے ایک زہر ایجاد کیا ہے ماں، جسے اس نے ڈالر کا نام دیا ہے، اور جسے ضرورت مند بڑے شوق سے نگل بھی جاتے ہیں، مگر نگلتے ہی مر جاتے ہیں اور رکی قتل کے الزام سے بھی بچا رہتا ہے۔ اب تک یہ زہر اتنے انسانوں نے لگلا ہے کہ اگر رکی ان کی لاشوں سے ایک مینار بنا لے تو ان کی پسلیوں میں پنچے اٹکا کر وہ نہایت آسانی سے چاند پر پہنچ سکتا ہے۔“

”تم بکتے ہو۔“ رکی تڑپ اٹھا ”میں نے راکٹ ایجاد کیا ہے۔ یہ دیکھو۔“

ادھر ولی، جس کی ٹھوڑی کا گوشت نیچے لٹک آیا تھا، بولا ”میں اس کا



گواہ ہوں۔“

استانی ریکی کی طرف متوجہ ہوئی تو خلوف نے بدستور خشنختی بالوں پر ہاتھ پھیر کر درانتی چلنے کی سی آواز پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ”اور ماں! اس نے ذرے سے جہنم اگلا لیا ہے۔ اور اگر تم نے اسے چاند پر جانے دیا اور اس کے ڈالروہاں بھی بٹنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری زمین کو بیکار سمجھ کر یہ جہنم اسی پر انڈیل دے۔ یہ ریکی بڑا طوطا چشم ہے ماں!“

استانی نے ریکی کو کچھ اس طرح دیکھا کہ وہ راکٹ کو ایک طرف رکھ کر بالکل تیمیوں کی طرح بیٹھ گیا اور لوہے کی ایک گیند کو جھولی میں ڈال کر سر جھکا لیا۔ ادھر سے ولی نے التجا کی ”نیا نیا خون ہے ماں: کھلند ڈا ہے“ معاف کر دو بے چارے کو۔“

”میں تنگ آ چکی ہوں تمہیں معاف کرتے کرتے۔“ استانی نے ہاتھ جھٹک کر کہا اور جٹاؤں میں کہیں چھپے ہوئے ایک باسی پھول کی سمٹی سکڑی پنکھڑیاں جلے ہوئے کانڈ کے پرزوں کی طرح ادھر ادھر بکھر گئیں۔ ”میں صدیوں سے ولی کو معاف کرتی آ رہی ہوں، جو ملکوں ملکوں تاجر بن کر گیا اور شہنشاہ بن بیٹھا۔ تم لوگوں نے میرے پوربی بچوں کی تجارت کی، تم نے دھرتی کے کلیجے سے رس نچوڑ نچوڑ کر اپنے ذرا ذرا سے جزیروں پر چھڑکا اور میں تمہیں معاف کرتی چلی آئی۔ اور اب مکی چاند پر جانا چاہتا ہے! — دیکھو ریکی! تم نے اور ولی نے مل کر مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میرے بچے <sup>پوربی</sup> تھے بے چارے؛ پھول کو دیکھتے تھے تو صرف یہی کہتے تھے کہ یہ خوبصورت ہے یا خوش رنگ ہے۔ بہت تیرمارا تو پھول کی رگیں گن لیں اور انہیں اپنے ہاتھ کی لکیروں سے تشبیہ دینے لگے۔ مگر تم نئے بچے، اللہ تو بہ! پھول کو دیکھتے ہو تو اسے کوٹ دیتے ہو، پس ڈالتے ہو، چھان لیتے ہو۔ اس کے سفوف اور عرق کو شیشے کی نلیوں میں ڈال کر اسے گرمی پہنچاتے ہو اور نتیجہ نکالتے ہو کہ اس میں فلاں آلا بلا کی اتنی

مقدار ہے، اور اس آلا بلا میں فلاں فتنے کے اتنے اجزا ہیں، اور ان اجزا کے فلاں تناسب سے یہ رنگ پیدا ہوتے ہیں اور —

”اور اس قسم کے مہلک بم بن سکتے ہیں۔“ خلوف نے سر پر درانتی چلائی۔

استانی بگڑ گئی ”تمہیں دخل در معقولات کی بڑی بری عادت پڑ گئی ہے — میری تچی لاؤ کوئی۔“

اور ولی بولا ”وہ تو پچھلی صدی میں تم نے میرے ہاتھوں پر توڑ دی تھی ماں۔“

بکی زور کا قہقہہ مار کر ہنسا ”یہ تو اچھا خاصا لطیفہ ہو گیا بھئی۔“

استانی بھی ناگواری سے مسکرانے لگی ”سو یہ ہیں تم بد بختوں کی عادتیں۔ تم نے تو چکرا ڈالا ہے مجھے۔ میں پوچھتی ہوں آخر تمہیں یہ مین میخ نکالنے سے کیا حاصل ہو گا شریرو۔ پھول کو پھول کہو، تارے کو تارا، چاند کو چاند —“

”اور انسان کو انسان“ خلوف بولا، مگر پھر استانی کے غصے کے مارے دبک گیا۔

”ہاں، یہ ایک معقول بات کہی تم نے۔“ اس نے جھک کر خلوف کے سر پر ہاتھ پھیرا۔

”تم نے یہ اچھی اچھی سی باتیں کب سے سیکھ لیں موٹو؟“ پھر وہ سب سے مخاطب ہوئی ”تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں باز آئی اس روز روز کی دانٹا کلکل سے۔ اب واپس اپنی گپھا میں جاتی ہوں۔ لیکن جانے سے پہلے اپنے پوربی بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، جو ان دیکھے خدا کو پوجتے ہیں، مگر ان ہونی باتیں نہیں سوچتے۔“

”اور بکی کے ڈالر نگل نگل کر مر رہے ہیں، اور ولی کی تہذیب سیکھ

سیکھ کر فانی الذات ہو گئے ہیں، لیکن جن کی دھندلی دھندلی آنکھوں میں ابھی تمہاری واپسی کی امید کے چراغ نہیں بجھنے پائے ماں!“ خلوف بڑی اداسی سے استانی کو دیکھنے لگا۔

”میرے پوربی بچے!“ استانی کی آنکھیں جیسے پتھرانے لگیں۔

”انہیں بھی یہاں بلا لوں ماں؟“ مکی نے چونک کر کہا ”ہم چاند پر

جائیں گے تو وہ ذرا چوکیداری کر لیں گے ہمارے ایوانوں کی۔“

”اور بدلے میں کیا پائیں گے؟“ خلوف کے ہونٹوں پر بڑی خطرناک

سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔

”تہذیب، اور کیا؟“ ولی نے اپنی دوہری ٹھوڑی کو ایک انگلی سے

تھپتھپا کر کہا ”میز پر کھانا کھانے کا ڈھنگ اور سگریٹ پکڑنے کا طریقہ اور ڈالی

پیش کرنے کا سلیقہ، بھئی خلوف! تم بھی عجیب اجڈ آدمی ہو۔“

”اور میں چاند پر جا سکتا ہوں ماں۔“ مکی بار بار چاند کی طرف دیکھتا

تھا۔

استانی نے جھک کر مکی کو کان سے پکڑ لیا ”پر میں پوچھتی ہوں سیاح

کے بچے! کہ تجھے ابھی سے چاند کا غم کیوں مارے ڈالتا ہے“ — استانی کی

ناک کے بانسنے پر پسینے یا آنسو کا ایک موٹا سا قطرہ مہاسے کی طرح جیسے ابھر کر جم

گیا تھا۔ ”اپنی زمین اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہے کہ یہ

کیا ہیں، اور کب سے ہیں، اور کیوں ہیں؟“

”نہیں ماں! ہم اچھی طرح نہیں جانتے۔“ تینوں ایک ساتھ بولے۔

اور پھر ان جزیروں سے دور دھند میں لپٹے ہوئے ایک پوربی جزیرے

پر سے ان گنت آوازیں آئیں: ”ہم بھی نہیں جانتے ہماری پچھڑی ہوئی ماں! ہم

تمہارے پرانے پوربی بچے بھی نہیں جانتے“

استانی اور تینوں لڑکے گھبرا کر مشرق میں ایک جزیرے کی طرف

مڑے۔ دھند چھٹی تو انہوں نے دیکھا کہ کالے کلوٹے لڑکوں کا ایک انبوہ باہیں پھیلانے منہ پھاڑے چلائے جا رہا تھا۔ ”ہم بھی نہیں جانتے ماں! کوئی بھی نہیں جانتا، صرف خدا جانتا ہے۔“

استانی کی بھووں نے لٹک کر اس کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد بھوسلی جلد اور خاکستری بالوں کے اس پردے کے نیچے سے دو سوتے بہہ نکلے، اور چمکتا ہوا پانی جھریوں کی وادیوں میں بہتا، پوپلے منہ کے کناروں پر ڈیلٹے بناتا ٹھوڑی تک پھیل گیا۔ ”قریب آجاؤ میرے سانولے سلونے بچو!“

— اس کی بھرائی ہوئی آواز میں قرونوں کے دکھ تھے، اور صدیوں کے پرانے گناہ کا احساس ندامت — ”قریب آجاؤ“ — اس کی آواز طنبورے کے ٹوٹے ہوئے تار کی طرح کانپ رہی تھی۔

مکی زور زور سے ہنسنے لگا اور ولی کی طرف پلٹ کر بولا: ”اگر ان لوگوں کی ایک فلم بنائی جائے تو کیسا رہے ولی!“

”بہت اچھا رہے۔“ ولی نے رائے ظاہر کی ”بڑی سبق آموز فلم۔“

سینیوریو میں لکھ دوں گا، مجھے صدیوں کا تجربہ ہے۔“

اور پھر دور کے دھندلے جزیرے پر سے آوازیں آئیں۔ ”ہمارے پاس کشتیاں نہیں ماں، اور ہم میں سے کئی ایک کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اور پھر ادھر ان چھمی جزیروں میں، جہاں سے تمہاری آواز آرہی ہے، ایسے لڑکے بستے ہیں جو رنگ اور نسل کی میزان پر آدمیت کو تولتے ہیں اور ہمارا پسینہ پونچھنے کے بہانے ہماری رگوں سے لہو کھینچ لیتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں مور چھل تھما کر سمجھتے ہیں انہوں نے ہمارے لہو کی قیمت ادا کر دی — ہم یہیں سے سن لیں گے ماں! تمہاری آواز پورب اور پچھتم پر سورج کی شعاعوں اور چاند کی کرنوں کی طرح حاوی ہے۔“

”ماں، چاند کس مرکب سے بنا ہے؟“ مکی نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے



”ہے۔“

استانی بے اختیار رونے لگی۔ ”یہ بھولے بھالے تو ابھی تک اسی چکر میں پڑے ہیں۔“

”یوں ہی ہوتا ہے ماں!“ خلوف بولا ”دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان قوموں سے ترقی کی تمام صلاحیتیں چھن گئیں جو کسی کے محکوم ہو گئے۔“  
یہ ان کا قصور نہیں ماں! یہ ان کے حاکموں کا قصور ہے۔“

رکلی بہت دیر سے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ولی استانی سے کہہ رہا تھا ”میں نے تو ان کی طرف مشنری بھیجے تھے، اور بڑے زور سے خداوند خدا۔“

”سچی بات کیوں نہیں کہتے ولی“ خلوف نے اسے ٹوکا ”یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم نے تاجر بھیجے تھے جو انھی سے کھالیں لیتے تھے، اور ان کی اجرت اس صورت میں ادا کرتے تھے کہ انہیں اپنے بوٹوں کو پالش کرنے کی عزت بخشتے تھے، جو۔“

”تم بڑی لمبی لمبی باتیں کرنے لگے ہو خلوف۔“ استانی نے خلوف کو

ٹوکا۔

اور پرلے جزیرے پر پوربی بچے پوجا میں مصروف تھے، اور چاند ناریل کے جھنڈ میں پھنس کر رہ گیا تھا، اور نرم ہوا سے ڈولتی ہوئی شاخوں نے اس میں پھڑپھڑاہٹ بھردی تھی، اور ایک فاختہ ان شاخوں میں چھپی جیسے زخمی ہو کر کراہ رہی تھی!

”ماں! ہم چاند پر ضرور جائیں گے۔“

ولی اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا، اور خلوف اپنے ہاتھوں کو کدال کی طرح ریت میں گاڑ کر بولا۔ ”وہاں بھی کدال پہنچے گی بچہ جی۔“

رکلی ریت پر دراز ہو گیا اور ہاتھوں میں ایک گولہ اچھالتے ہوئے بولا۔

”دیکھا جائے گا۔“

”دور اندیش بنو رکھی!“ ولی نے بزرگانہ لہجے میں کہا۔ ”پیش بینی سے کام لو، اور دیکھو، گولے کو یوں نہ اچھا لو۔ اس کے پھٹنے کا تجربہ کسی پوربی جزیرے پر ہی بہتر رہے گا، سمجھے؟“

لیکن رکھی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سیٹی بجانے لگا، اور پرلے جزیرے سے ایک گونج اٹھی۔ ”تو سب سے بڑا ہے۔ تو ساری کائنات کا آقا ہے، ہم تیرے غلام ہیں، ہم پر رحمتوں کے پھول برسنا۔“

”یہ رحمت کا پیڑ کس ملک میں اگتا ہے ماں؟“ خلوف نے بڑے بھول پن سے پوچھا۔

استانی آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ چاند ناریل کے شکنجے میں سے نکل کر ہنسنے لگا۔ ندیوں میں چاندی کی پتیاں سی ناچنے لگیں، اور ایک فاختہ استانی کے پاس اتر کر بھیگی ہوئی گھاس کی جڑیں کریدنے لگی۔

استانی سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے نہ جانے کیا سوچنے لگی تھی اور خلوف مٹھیوں میں ریت بھر بھر کر نیچے گرا رہا تھا کہ اچانک رکھی اپنے جزیرے کے ساحل پر اپنے ہاتھ رکھ کر ولی کی طرف جھکا۔ ادھر سے ولی نے بھی ایسی ہی حرکت کی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی سرگوشی کی، اور پھر دونوں ایک ساتھ اپنی اپنی کشتیوں میں اترے اور پورب کی طرف روانہ ہو گئے۔

ولی اور رکھی پوربی بچوں کے انبوه کو اپنی کشتیوں میں ٹھونس ٹھانس کر لے آئے اور انہیں ایک مخروطی سے دلدلی ٹیلے پر اتار کر اپنے جزیروں کی طرف چلے گئے۔ ننگ دھڑنگ بچے اور نیم عریاں بچے اور بیمار بچے دلدل میں ہاتھ اور پاؤں گاڑ گاڑ کر ٹیلے کی چوٹی پر ریٹنگنے کی کوشش کرنے لگے اور جب سب اوپر آگئے تو کدالوں اور پھاوڑوں سے سترپوشی کی کوشش میں لگ گئے۔ چند ایک ولی اور رکھی کو بڑی غضب ناک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کئی ایسے

بھی تھے جو ولی اور مکی کی طرف مارے خوف کے آنکھ تک نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کے بالوں میں بھوسے کے تنکے اٹکے ہوئے تھے، چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ ان کی کلائیوں میں ہتھکڑیوں نے گانٹھیں ڈال دی تھیں، اور بیڑیاں جو گھس گھس کر ٹوٹنے ہی والی تھیں، ان کے ٹخنوں اور پنڈلیوں میں جیسے پیوست ہو کر ان کی رگوں میں بدل چکی تھیں اور کبھی کبھی بج اٹھتی تھیں۔

”جاز ہتھکڑی اور بیڑی کے چھناکے سے نکلا ہے۔“ مکی نے ولی سے عالمانہ انداز میں کہا۔

”تم مجھے سمجھاتے ہو۔۔۔ مجھے؟ یعنی مجھے؟ ولی نے طنزاً مسکرا کر کہا۔

مکی نے زور کا ققمہ لگایا اور آگے جھک کر ولی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔  
”معافی چاہتا ہوں استاد! یہ سب تمہارا فیضان ہے۔“  
اور ولی اپنی ٹھوڑی کا گوشت نوچنے لگا۔

خلوف جو اب تک حیران کھڑا اپنے سر پر سرور سرور ہاتھ پھیر رہا تھا، نو واردوں سے مخاطب ہوا ”تمہارے کپڑے کہاں گئے؟“

وہ حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک پستہ قد لڑکا اچھل کر سامنے آگیا۔ اس کی کلائیوں اور ٹخنوں پر گانٹھیں تھیں، اور اس کے گال اس کی آنکھوں کی طرح اندر دھنسے ہوئے تھے، مگر اس کے انداز میں بلا کی چستی تھی اور اس کے ماتھے پر اجالا سا تھا۔

ولی نے مکی سے سرگوشی کی: ”اس نے ایون کھانا چھوڑ دی ہے کیا؟“  
”تمہارے کپڑے کہاں ہیں بچو؟“ استانی ان کے سروں پر باری باری ہاتھ پھیر کر پوچھ رہی تھی۔

مگر اس چھوٹے سے طرار لڑکے کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ولی بولا:  
”بات یہ ہے ماں کہ ان کے پاس کشتیوں کا کرایہ نہیں تھا، اس لئے ہم نے ان



کے کپڑے اتار لئے ہیں۔“

”جب یہ کرایہ ادا کر دیں گے ناماں — سود سمیت“ مکی نے کہا  
 ”تو ہم انہیں کپڑے واپس کر دیں گے۔ معمولی بات ہے۔ نقد سودے کا معاملہ  
 ہے۔“

خلوف نے تیوری چڑھا کر کہا ”تمہیں شرم آنی چاہیے۔“  
 ولی بولا ”اطلاعا“ عرض کروں حضور! کہ سوداگری میں شرم گھاٹے کا  
 پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔“

”اور ہم نے کشتیاں مفت نہیں بنائیں۔“ مکی نے طنزاً ”کہا“ اور پھر  
 پوربی بچوں کی طرف پلٹا ”ایک دوسرے میں گھس گھس کر بیٹھو جاہلو ورنہ  
 سردی لگ جائے گی، یا پانی میں گر جاؤ گے۔“

خلوف اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ”جیسے جی چاہے بیٹھو دوستو کیونکہ یہ سارے  
 جزیرے تمہارے ہیں، ہم سب کے ہیں، اور ہم سب انسان ہیں۔ یہاں وہاں  
 جہاں جی چاہے دندناتے پھرو۔ اور یاد رکھو کہ کالے گورے کے امتیاز میں  
 شرارت ہے۔ اور ولی اور مکی کی عادت میں داخل ہے کہ وہ انسان دے کر  
 گندم اور چاول خریدتے ہیں اور گندم اور چاول دے کر انسان خریدتے ہیں۔  
 ملک خریدتے اور بیچتے ہیں، قومیں خریدتے اور بیچتے ہیں — اور ہماری  
 — ہماری اور اپنی ماں کو بھی انہوں نے کئی بار خریدا اور بیچا ہے۔“  
 — خلوف کی آواز گرج کی حد تک پہنچ گئی تھی۔

استانی نے ہولے سے کہا ”خلوف بیٹے! میری خواہش تھی کہ تم آپس  
 میں من جاؤ۔ میرے اس سفید چونڈے کا لحاظ کرو اور من جاؤ، پر تم بات بات  
 پر الجھ پڑتے ہو؛ تو کیا میں پھر اسی غار میں اتر جاؤں جہاں سے تم مجھے اٹھالائے  
 تھے؟

”ماں!“ مکی چمکا ”تمہاری اجازت ہو تو میں یہ گولہ پھینک کر اس کی

ساری شیخی کر کر می کر دوں۔“

”ارے پوچھتے کیا ہو، پھینک دو کہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔“ ولی نے

سرگوشی کی۔ ”تم اتنی جرات نہیں کر سکتے تو لاؤ مجھے دو۔“

مگر مکی نے ولی کو انگوٹھا دکھایا اور اسے کچھ یوں تکتے لگا جیسے پوچھ رہا

ہے: ”حضور کے مزاج تو اچھے ہیں؟“

استانی بولی ”تمہارا یہ گولہ بڑا بے قرار نظر آتا ہے مکی۔“

مکی نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔

اور خلوف، جو شاید اسی موقع کا منتظر تھا، بولا ”تم اداس نہ ہو ماں!

اب تم غار میں کبھی نہیں اترو گی۔ ہم تمہیں اپنی آنکھوں اور اپنے ذہنوں میں

بٹھائیں گے، کیونکہ ہم تمہارے بغیر کچھ بھی تو نہیں ماں! ہم اتنا بھی تو نہیں

جانتے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اس حالت تک کیوں پہنچے ہیں، اور

یہ سب کچھ کیا ہے۔“

”سنو گے مکی؟“ استانی نے پوچھا

اور جواب ولی نے دیا ”ضرور سنیں گے ماں!“

اب استانی نے کہانی شروع کی، لیکن بالکل ایسے انداز میں جیسے نیند

میں بڑبڑا رہی ہے۔ اور کوئی بہت پرانی بات یاد کر رہی ہے، فاختہ گھاس کی ایک

پتی چونچ میں اٹھائے اڑی اور ناریل پر جا بیٹھی۔ ٹیلے سے لے کر درخت تک

ایک چمکتی ہوئی لکیر نے اس کی اڑان کا راستہ معین کیا۔ یہ گھاس کی پتی پر لرزتا

ہوا اوس کا قطرہ تھا۔ نیچے ندیوں میں چاند کی کرنیں لہراتی ہوئی بہتی چلی

گئیں۔

”لاکھوں قرن گزرے۔“ استانی کہہ رہی تھی ”کروڑوں صدیاں

ہیں کہ ایک سیارہ سورج کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے ٹکرا گیا

۔“

پوربی بچوں نے اچانک مالا میں اور تسبیحیں گھمانا شروع کر دیں۔  
 ”اس ٹکر سے سورج کے چند پرزے اڑ کر فضا میں بکھر گئے۔ ٹکر کا  
 زور انہیں سورج سے پرے دھکیل رہا تھا اور سورج کی کشش انہیں اپنی طرف  
 کھینچ رہی تھی، اس لئے یہ چھوٹے بڑے ٹکڑے فضا میں لپک کر چکرانے لگے  
 اور سورج کے ارد گرد گھومنے لگے اور گھومتے گھومتے گول مول ہو گئے اور  
 ٹھنڈے پڑ گئے، اور سیارے کہلائے۔ ان میں سے ایک سیارہ چاند اور دوسرا  
 زمین۔“

”وہ مارا!“ مکی اچھل کر چیخا اور پاس پڑے ہوئے راکٹ کو تھپتھپا کر  
 اور گولے کو ہوا میں اچھال کر چلانے لگا ”اس کا مطلب تو یہ ہوا ماں کہ چاند  
 ہماری ہی زمین کا ایک حصہ ہے۔“

خلوف بھی اسی شدت سے بولا ”اور اسی لیے یہ بھی تمہارے چچا سام  
 کی جاگیر ہے۔“ ہے نا؟ کان کھول کر سن لو بیٹے کہ اگر تم نے چاند پر جا کر  
 دھما چو کڑی مچائی تو ہم تمہارا جزیرہ چاند سے اترنے والے مہاجرین کے سپرد کر  
 دیں گے۔“

استانی سر کو ہاتھوں میں تھام کر جھک گئی تھی۔ فاختہ بار بار اڑتی اور  
 ننھے ننھے چکر کاٹ کر کسی شاخ پر بیٹھ جاتی۔ ولی اٹھا اور اپنے بازو پھیلا  
 دیئے۔ ایک ہاتھ سے مکی کو اور دوسرے سے خلوف کو شانت رہنے کے  
 اشارے کرتے ہوئے بزرگانہ انداز میں بولا ”جنگ بڑی واہیات چیز ہے بھائیو،  
 ویسے میں اپنے پرانے دوست خلوف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکی نے تو راکٹ  
 ایجاد کیا مگر تمہارے پاس کیا ہے؟“

”نہیں بتاؤں گا۔“ خلوف نے غصے میں کہا۔

”بتادے یار۔“ ولی نے بے انتہا مصنوعی مسکراہٹ سے سرگوشی  
 کی۔ ”اگر تم ذرا سا بھی غور کرو تو خلوف بھیا! تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم

دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جاہل مورخوں نے ہمیں خواہ مخواہ الگ کر رکھا ہے۔ اور پھر تم پوربی تو قطعی نہیں ہو، تم تو ہر لحاظ سے، یعنی میرا مطلب ہے جلد کے رنگ اور اندازِ نشست و برخاست وغیرہ کے لحاظ سے صدنی صد اصل مغربی ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے دشمنوں کا دشمن رہا ہوں۔ نیولین کو یاد کرو اور پھر نازیوں کو یاد کرو، جنہیں ہم نے اپنی ماں کا نام اونچا کرنے کے لئے موت کے گھاٹ اتارا اور پھر ان کو جلا کر ان کی راکھ تک اڑادی اور اپنی ماں کا ناموس بچا لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا خلوف بھیا کہ تم اور میں تو بہت پرانے دوست ہیں۔ یہ مکی تو بھگوڑا ہے کم بخت، ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن کی تو پیدائش ہے۔ چوری چکاری کے الزام میں میں نے اپنے جزیرے سے بھگایا اور اب حضور کے دماغ میں ہی نہیں ملتے! —

تو بات یہ ہے خلوف بھیا! کہ مکی کے پاس تو ہوا راکٹ پر تمہارے پاس کیا ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے تو اور کسے بتاؤ گے دوست؟“

”ولی!“ مکی جو اب تک راکٹ کو اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا چیخا  
 ”تم دونوں میرے خلاف سازش کر رہے ہو اور میرے پاس ایٹم بم ہے، سمجھے؟“

”ایٹم بم؟“ پوربی بچوں میں سے ایک انتہائی وحشت سے چلا کر اچھلا،  
 اور پھر دھم سے گر کر تڑپنے لگا۔ استانی جو اب تک رو رہی تھی، یا شاید اونگھ رہی تھی، دلدلی جزیرے پر آگئی اور بچے کو گود میں لے کر اور وہیں کیچڑ میں بیٹھ کر ہولے ہولے لوری گانے لگی۔

مکی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں ریت پر لیٹ گیا اور ولی نے آہستہ سے کہا:

”بھائی جان! — یہ جاپان ہے!“

”تم مجھے بتا رہے ہو؟“ — مجھے؟ — یعنی مجھے؟“ مکی طنزاً

مسکرایا۔

خوف زدہ بچے کو لوری دیتے دیتے استانی پر غنودگی طاری ہو گئی تھی، اور وہ بڑبڑا رہی تھی: ”پھر میں جگہ جگہ بھٹکتی پھری۔ بابل اور روم اور مقدونیہ — میں نگر نگر اپنا ناموس بچانے کے لئے پناہ لیتی پھری اور اس کے بعد —“

”ماں! اے ماں!“ خلوف نے استانی کو پکارا ”تم نیند ہی نیند میں بہت آگے نکل گئی ہو۔“

استانی نے چونک کر اپنے ٹیلے کی طرف دیکھا جہاں بھولی بھالی فاختہ بیٹھی پر سنوار رہی تھی، اور اس کی چونچ میں گھاس کی ایک پتی تھی جس پر اس کا قطرہ چمک رہا تھا۔ اس وقت چاند مغرب کی طرف جھک گیا تھا اور ناریلوں کے سائے چمکتی ہوئی لہروں پر لیٹ گئے تھے۔ استانی نے خلوف سے پوچھا ”تو میں کہاں تک پہنچی تھی؟“

مکی ایک دم پکارا ”تم کہہ رہی تھیں ماں کہ چاند ہماری ہی زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔“

”اور اس لئے اس پر بھی تمہارا اجارہ ہے۔“ خلوف نے طنزاً کہا۔  
استانی نے ہاتھ جھٹک کر ڈانٹا ”کچھ سنو گے بھی یا اپنی سی ہانگے جاؤ گے؟“

سناٹا چھا گیا۔ صرف پوربی بچوں کے لبوں سے کسی طلسمی چاپ کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اوپر ناریل کے درختوں کی چھتریوں میں ہوائیں بھونروں کی طرح گونج رہی تھیں اور نیچے ندیوں میں چاند قاش قاش ہو کر بہ رہا تھا اور فاختہ کہیں فضا میں اڑتی پھرتی تھی۔ خوف زدہ بچہ آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھا تھا اور خلوف، ولی اور مکی آنکھیں جھکائے ہوئے تھے اور منتظر تھے کہ استانی کب کہانی شروع کرے۔

”شروع شروع میں انسان نے درختوں پر رہائش اختیار کی۔“ استانی نے اپنے ٹیلے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔

”یعنی جب وہ بندر سے —“ مکی نے کہنا چاہا مگر استانی کے پلٹ کر دیکھنے سے آواز رک گئی۔

”اس نے درختوں پر رہائش اختیار کی اور درختوں کی جڑوں اور ناریل کو اپنی اولین خوراک بنایا۔“ استانی نے اپنے ٹیلے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فاختہ اب نیچے اتر آئی تھی۔

”اس نے ہزاروں برس درختوں میں گزرا دیئے۔“ استانی نے اطمینان سے بیٹھ کر کہا۔ مگر اچانک مکی نے اسے ٹوکا۔

”ماں!“ مکی نے بڑے اوب سے پوچھا۔ ”ماں! اسے نیچے اترنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟“

”نیچے بڑے بڑے خوفناک وحشی جانور تھے اور اڑدے تھے۔“ استانی نے جواب دیا۔

”اور ماں!“ خلوف نے بھی مکی ہی کا لہجہ اختیار کیا ”یہ بڑے بڑے خوفناک وحشی جانور اور اڑدے تو آج بھی غریب انسان کی بستیوں کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور موقع پاتے ہی انہیں ڈس کر اور چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔“

”آج بھی؟“ استانی حیران رہ گئی ”کہاں؟“

خلوف کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ولی اور مکی اچانک چلا اٹھے اور آس پاس بکھرے ہوئے ننھے ننھے پست ٹیلوں پر لیٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے اونگھتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور یک زبان ہو کر چیخنا شروع کر دیا: ”یہ خلوف ہر بات میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑاتا ہے ماں! کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ یہ بات بات پر تڑپ اٹھتا ہے۔ ہم تو تمہارے تجربہ کار بچے ہیں!

ماں! ہم نے تو قوموں کو مٹتے اور ابھرتے دیکھا ہے۔ ہم نے تو تمدنوں کو ماپال ہوتے اور پھولتے پھلتے دیکھا ہے۔ آج بھی دنیا کے ہر ملک میں اور سمندروں کے ہر جزیرے میں ہمارے ہی جھنڈے گڑے ہیں۔ اور یہ خلوف ابھی کل کی پیدائش ہے۔ یہ کیا جانے تاریخ کا فلسفہ۔ تم کہانی سنائے جاؤ ماں! اگر خلوف نے اب کوئی گڑ بڑ کی تو ہم اسے ندی میں غوطہ دے دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے، یہ ان کالے حبشی بچوں اور پستہ قد پیلے پیلے ایونی لڑکوں کو اپنے آس پاس پا کر مچل پڑا ہے، لیکن باور کرو ماں! ہم نے تو ان چھوڑوں کی کھوپڑیوں سے بھیجے نکال کر اپنے عجائب گھروں میں سجائے ہیں، حیثیت ہی کیا ہے ان کمینوں کی۔ تم کہے چلو ماں، ہم تمہارے سعادت مند بچے کان دھر کر سنیں گے اور جو نہیں سنے گا اس کی گردن مروڑ ڈالیں گے۔“

اتنی بہت سی باتیں سب نے مل کر کہی تھیں، اس لئے استانی کے کچھ پلے نہ پڑا۔ بس وہ تھکی ہاری سی اپنے سر کو ایک ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی اور دوسرے لٹکے ہوئے ہاتھ سے بھیگی ہوئی گھاس کو نوچے جا رہی تھی؛ اور جب شور تھا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کی جھریوں میں پھیلے ہوئے آنسو چاندنی میں دمک رہے تھے۔

خلوف، جو اب تک بے انتہا ضبط کئے بیٹھا تھا، اٹھا ”ماں!“ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ”ماں! انہوں نے تمہیں ہمیشہ رلایا ہے، انھی کی وجہ سے تم ہمیں صرف آنسو — صرف آنسو دے سکی ہو، اور ہم تمہاری مسکراہٹوں کے لئے ترس رہے ہیں، اور تمہارے گجروں کے لئے اور تمہارے گیتوں کے لئے۔“ — پھر اس کی آواز بلند ہو گئی۔ ”ماں! اگر تم اجازت دو تو میں — میں —“

استانی نے لٹکا ہو اہاتھ اٹھایا اور خلوف خاموش ہو گیا۔ اس وقت پوریوں میں سے دو چار بچے استانی کی طرف باہیں اٹھائے بسورنے لگے تھے۔

چند ایک ملائیں اور تسبیحیں گھمانے میں مصروف تھے۔ عماموں والے بچوں نے ٹھو کے مار مار کر ایک دوسرے کی پسلیاں دکھادیں تھی۔

استانی اپنے گلے کو مل کر بولی ”ہزاروں برس کے بعد انسان نیچے اترتا تو وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ پتھروں کے ہتھیار بنا کر اپنے دشمن درندوں اور اژدہوں کا مقابلہ کر سکے۔ پتھروں کے آپس میں ٹکرانے سے چنگاریاں جھڑیں تو اسے آگ کا راز معلوم ہوا۔ اس نے ایک دن پانی میں سے مچھلی پکڑی اور جب زمین دوز بھٹی میں دبی ہوئی بھوبھل میں اسے بھون کر چکھا تو مستقل طور پر پانی کے کنارے آباد ہو گیا۔ پھر وہ ساحل ساحل دور تک پھیل گیا۔ پھل اور شکار اس کی خاص خوراک تھی۔ لیکن جب آبادی بڑھی اور قدرتی وسائل اس کی ضرورتوں کا پورا ساتھ نہ دے سکے تو اس نے انسانوں ہی کو بھون بھون کر کھانا شروع کر دیا اور جب سے میں خانہ بدوش ہو گئی۔“

مکی اچھل پڑا ”ماں! اگر اس کہانی کے حقوق تم ایک لاکھ ڈالر کے بدلے میرے سپرد کر دو تو میں تمہیں اس زمانے کی ایسی فلم تیار کر دکھاؤں گا کہ تم عیش عیش کر اٹھو گی۔“

خلوف نے استانی کی طرف دیکھا اور پھر جھجک کر بولا ”میں مجبور ہو کر بول رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو —“

استانی نے مسکرا کر کہا ”زیادتی تو نہیں کرو گے نا؟“

”مجھے تو مکی کو اسی سلسلے میں ایک اطلاع دینی ہے۔“ خلوف اب مکی کی طرف پلٹا۔ ”تم اُس پرانے زمانے کی فلم کیوں بناتے ہو، مکی۔ خواہ مخواہ ماں پر ایک لاکھ ڈالر ضائع کرو گے۔ اسی دور کی فلم بنا لو جہاں ابھی تک آدم خوری کا رواج زوروں پر ہے۔“

مکی حسب معمول برا مان گیا ”آدم خوری کی رسم اور اس سنہری تہذیب کے دور میں؟ تم اگر میرے ہاں آ جاؤ تو میں تمہارے دماغ کا آپریشن کر



کے تمہیں تندرست کر دوں گا، سمجھے؟ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔  
 ارے آدم خوری کی رسم تو اب افریقہ میں بھی ختم ہو رہی ہے پگلے۔ میرا  
 دوستانہ مشورہ ہے کہ تم میرے ہاں کے مورخوں کی کتابیں پڑھا کرو۔“

ولی صلح کرانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا ”بھئی مکی! تم بہت بد مزاجی سے  
 کام لے رہے ہو۔ خلوف ٹھیک کہتا ہے، آج بھی تو آسٹریلیا کے پراچین لوگ  
 آدم خوری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ تم چاہو تو میں تمہیں آسٹریلیا جانے کا پرٹ  
 دے دوں، اپنی نو آبادی ہے۔“

خلوف، جس کے چہرے کے خطوط تنے ہوئے تھے۔ اور ناریل کی ایک  
 ڈولتی ہوئی شاخ کا سایہ بار بار اس پر تیر تیر جاتا تھا، بولا، ”صرف آسٹریلیا کے  
 پراچین لوگ؟ ارے صاحب خود تمہاری نو آبادیوں اور مکی کے وطن، اور ان  
 سرزمینوں میں جہاں یہ اپنے مٹھی مٹھی بھر ڈالر پھینک چکا ہے، اور جہاں جہاں  
 تمہاری دولت مشترکہ کا سایہ پڑا ہے، اور جہاں تم دونوں اپنی سنہری تہذیب لے  
 گئے ہو، ان سب مقامات پر آدم خوری بڑے زوروں سے ہو رہی ہے اور  
 چھری کانٹے سے یعنی بڑے مہذب طریقے سے ہو رہی ہے، اور ماں —  
 ماں! جانتی ہو یہ انسانی بوٹیوں کے کباب بنانے والے اور انسانی ہڈیوں کا گودا  
 چاٹنے والے ہیں کون؟“

استانی اپنے کندھے پر بیٹھی ہوئی فاختہ کو بڑی محبت سے دیکھ رہی

تھی۔

”تمہی بتا دو۔“ ولی نے رائے ظاہر کی۔

اور خلوف دو قدم آگے بڑھ کر بولا ”تم اور مکی اور تمہارے یہ ساتھی  
 جو ننھے ننھے جزیروں سے جو نکوں کی طرح چمٹ کر رہ گئے ہیں، تم سب آدم خور  
 ہو۔“

ولی اور مکی چیختے چلاتے رہے، اور ننھے ننھے جزیروں پر بچے اچھل کر

بلبلاتے رہے اور احتجاج کرتے رہے، مگر خلوف گرجتا چلا گیا۔ ”تم نے ساری دھرتی پر بسنے والے انسانوں کا گوشت کھسوٹ کر نگل لیا ہے اور ان کی ہڈیاں توڑ کر اپنے ہتھیاروں کے جڑاؤ دستے بنائے ہیں۔ تم نے پورب سے تہذیب سیکھی، علم حاصل کیا، تمدن پایا، پورب ہی نے تمہیں مذہب بخشے، اور پھر تم انھی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر انھی پر جھپٹے اور تم نے بے چارے ہند کو نوچ نوچ کر بالکل ایک پنجر بنا دیا۔“

خلوف نے پلٹ کر دیکھا تو گھس گھس کر بیٹھے ہوئے لڑکوں میں سے دو لڑکے جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی جلد اپنی ہڈیوں پر مڑھے ہوئے، کھوکھلی آنکھوں میں سے دھو آں چھوڑتے اٹھے اور استانی کی طرف جانے کی کوشش میں کنارے پر لڑکھڑا کر گر پڑے اور کراہے ”ماں! ماں!“ — استانی کے کندھے پر بیٹھی ہوئی فاختہ نے جھک کر ان عجیب سے کیرٹوں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں قندیلیں جل رہی تھیں اور انگلیوں میں شیشی کھچاؤ تھا۔ اوس کا موتی گھاس کی پتی کی نوک تک لڑھک کر تھر تھرا اٹھا۔

خلوف کی آواز میں تیزی آگئی ”تم نے چین کے کھیت اجاڑ دیئے، اور ششکھائی اور ہانگ کانگ کی رقص گاہوں میں — اپنی ان دکانوں میں — چینیوں کی کھوپڑیاں بجا بجا کر ناچتے رہے۔“

اب ایک اور لڑکا اٹھا۔ یہ وہی پستہ قد طرار لڑکا تھا۔ ولی اور مکی کو دیکھ کر اس نے بڑی معنی خیز تیوری چڑھائی اور کسی روحانی کرب سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے پاکستان و ہند کے قریب بیٹھ کر استانی کو بے انتہا محبت سے دیکھنے لگا۔

ولی چلایا ”اس کے پاس تو چھرا ہے ماں!“

مکی چیخا ”ماں! اسے ندی میں پھینک دو۔ اس نے میرا منہ چڑایا ہے، اس نے مجھے بھی چھرا دکھایا ہے۔“



میں سنی ہوئی تھیں اور ان کی دھجی دھجی عباؤں پر تیل کے داغ تھے، اور ان کے  
عمامے کئی جگہ سے جلے اور نچے ہوئے تھے۔

استانی نے گھبرا کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دو تین بار سر کو  
جھٹکا اور پھر خلوف کو دیکھنے لگی جو کہہ رہا تھا ”یہ اور دوسرے کئی بچے! تمہارے  
اپنے جزیروں پر رہنے والے، مشرق و مغرب کے یہ مظلوم — تم نے ان  
سب کے جیتے جاگتے جسموں کو کاٹ کاٹ کر کھایا ہے، تم نے ان سب کا لہو پیا  
ہے۔ تم اپنے ضیافت خانوں میں کیوں نہیں جھانکتے جہاں تمہیں سونے اور  
چاندی کی طشتریوں میں ان کی آنکھیں، ان کی زبانیں، ان کی چھاتیاں اور ان کی  
رانیں انھی کی ہڈیوں کے گودے میں لپٹی ہوئی ملیں گی۔ تم اپنی ہی زندگی کی  
تصویر اتار لو تو آدم خوروں کے بارے میں ایک نہایت کامیاب فلم تیار کرنے  
کے اعزاز میں تمہارا مورخ تمہیں بڑا ممتاز مقام بخش دے گا اور تم جاسوسی،  
قتل اور جرم کی جو بے شمار فلمیں بناتے ہو ان میں اتنا عظیم اضافہ کرو گے کہ  
اگر ہٹلر زندہ ہوتا تو تمہارا سینہ تمغوں سے لپ دیتا۔“

خلوف یہ کہہ کر پیچھے ہٹ آیا۔ اس وقت رکی اپنے جزیرے کے  
کنارے بہت غضب ناک ہو کر کھڑا تھا اور وہی بھی بار بار اس کی شہہ پر  
آستینیں چڑھا چڑھا کر خلوف کو گھورتا تھا مگر رکی کی آنکھ بچا کر مسکرا بھی دیتا تھا۔  
اور پوربی بچوں کے چہروں پر کندنی سانور پھیل رہا تھا۔ ہوا کا ایک بے حد چنچل  
جھونکا کہیں دور کے پانیوں میں بھیگ کر مچلتا ہوا آیا اور ناریل کی شاخوں میں  
لہک کر اور نیچے پوربی بچوں کے بالوں اور تار تار لباسوں میں سے گزر کر استانی  
کے آس پاس منڈلانے لگا۔ اور استانی جیسے اچانک چاق و چوبند ہو کر تن گئی،  
اور فاخہ جھونکے کے اس دائرے میں تنکے کی طرح بہتی رہی، اور گھاس کی پتی  
پر اوس کا موتی دکلتا رہا۔ نیچے ندی میں جیسے کسی نے مقیش کی مٹھیاں چھڑک  
دی تھیں اور بہت دور سے — اتنی دور کہ ”بہت“ کا لفظ اس کا احاطہ



گوشت کے ریشوں کی تجارت نہیں ہوگی اور وہ کروڑوں مظلوموں کے جے ہوئے خون سے چاکلیٹ نہیں بنا سکیں گے۔“

”اف!“ مکی نے اس زور سے ناک چڑھائی کہ وہ اس کی بھوؤں کے عین وسط میں لال چقندر بن کر جم گئی ”ماں!“ اس نے فریاد کی۔ ”یہ خلوف جو ہے نا۔۔۔ مجھے اس کی باتوں سے متلی ہو رہی ہے۔ انسانی گوشت کے ریشے اور جما ہوا خون اور ہڈیوں کے گوڈے اور۔۔۔ اف! جی مالش کر رہا ہے ماں!۔۔۔ یہ بڑا اُجڈ ہے کم بخت؛ یہ تمہاری دھرتی کے حسن کو خاک میں ملا دینا چاہتا ہے مزدور کہیں کا۔ اچھا بھلا ہمارے ساتھ قدم قدم چل رہا تھا آج سے چند برس پہلے۔ مگر اب تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ جب سبز ریشم کے لپٹھوں ایسی بلیں ہمارے درپچوں کے آس پاس طلسماتی تانے بانے سجاتی ہیں اور ہمارے ایوانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں پر لوٹتی ہیں اور انہیں چوم چوم کر جھومتی ہیں۔ اور ماں! جب ان میں ایسے پھول اگتے ہیں جو صبح کو گلابی ہوتے ہیں تو دوپہر کو اودے ہو جاتے ہیں اور شام کو عنابی۔ اور جب گرمیوں کا ابھرتا ہوا سورج میرے بنگلوں کے حاشیوں پر اگے ہوئے لمبے لمبے لچکے اور سبک درختوں کے سائے سرخ بھری کی روشوں اور فراخ برآمدوں کے مرمریں فرش پر اندیل دیتا ہے۔ اور جب آئینہ وش میزوں پر پڑی ہوئی شیشے کی طویل اور پچی ہوئی بوتلوں میں ناچتی ہوئی تمپسین ہر آنے والے کو اپنے اندر ڈبو لیتی ہے، اور پھر بڑے غرور سے دوسروں کا انتظار کرتی ہے، اور ماں!۔۔۔ جب لمبوتری اور نیکی، بالکل سڑک سے لگی ہوئی کاریں فیتے کی طرح بچھی ہوئی سڑکوں پر فراٹے بھرتی ہوئی تیرتی ہیں، اور آس پاس کے درختوں کی جھکی ہوئی نودمیدہ کونپلوں کے رس پر منڈلاتے ہوئے سرخ اور زرد اور سبز رنگ کے بھونرے، ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ماں۔۔۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ جب ساحل سمندر پر سونے اور چاندی کے ملے جلے ذرات سے بنی ہوئی ریت میں ریشم کی

شمسیاں گاڑ کر ہم دھوپ اور سائے میں نہاتے ہیں اور پھر سمندر کی سبز تہوں پر جا کر گھونگے اور سپیاں چن لاتے ہیں اور جب — اف ماں! اجازت ہو تو میں ایک سگار پی لوں؟“

ولی جو آنکھیں بند کر کے جھوم رہا تھا، مکی کے خاموش ہوتے ہی بولا :  
 ”اور ماں! جب میرے شہروں کے گہرے گہرے کو چیرتی ہوئی شعاعیں معبدوں کے کلسوں کو چومتی ہیں، اور پارکوں میں ایک دم لاکھوں کلیاں چٹک جاتی ہیں، اور جب بازاروں میں سے ہر میجیٹی کی سواری گزرتی ہے تو ماں! —“

خلوف بیچ میں ٹپک پڑا ”اور جب مکی اور ولی کے شہروں کے مضافات میں مائیں اپنے بچوں کو پیٹ میں لئے مر جاتی ہیں۔ اور جب لڑکے نمونیہ کے درد سے بلبلا تے ہیں، اور جب دن بھر کے تھکے ہارے محنت کش اپنی بیمار ماؤں اور بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کے پاس راتیں آنکھوں میں کاٹ دیتے ہیں، اور سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کر چوستے ہیں، اور ماں! جب اخلاق کی آڑ میں بد اخلاقی اور مذہب کی آڑ میں استحصال اور امن کی آڑ میں جنگ او ڈالر اور سٹرلنگ کی آڑ میں آدم خوری کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے، اور جب ان جزیروں کے معمولوں میں تمہاری نکابوٹی کرنے کی تجویزیں بڑے کروفر سے تیار کی جاتی ہیں، اور جب ان تہذیب گاہوں میں کروڑوں، اربوں تہذیب سیکھنے والوں کے ڈھانچے، ہرنوں اور بارہ سنگھوں، چیتوں اور شیروں کے سروں کی طرح آرائش کے طور پر لٹکائے جاتے ہیں۔ اور جب ان کے جہاز عطر اور غازے سے لد کر جاتے ہیں اور لہو کے کنسترا اور کھوپڑیوں کی پیٹیاں بھر کر واپس آتے ہیں، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے نا ماں! تو دنیا بڑی حسین ہو جاتی ہے۔ اور میں واقعی بڑا بد ذوق ہوں کہ میں، مزدور کہیں کا، اسی حسن کو خاک میں ملانے نکلا ہوں — تم ٹھیک کہتے ہو مکی، میں اپنے جرم کا اقبالی ہوں۔“

خلوف نے بات ختم کی اور ریکی اور ولی کی طرف دیکھا تو وہ مورچے کھود کر حملے کا انداز اختیار کر چکے تھے، اور استانی نے ٹیلے پر سے گھاس نوچ نوچ کر ایک ڈھیر سا لگا دیا تھا۔ پوربی بچے اپنے گھٹنوں کے ارد گرد باہوں کے حلقے ڈالے یہ سب کچھ دم بخود ہو کر دیکھ رہے تھے، اور کہنیوں اور گھٹنوں پر سے رستے ہوئے خون کو پسینے کی طرح پونچھ کر کبھی استانی کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی خلوف اور ریکی اور ولی کی طرف۔ پھر وہ چونک کر ٹوٹی ہوئی مالاؤں اور تسیبوں کے منکے چننے لگتے، اور ہر منکے کو چوم کر اور آنکھوں اور ماتھے سے لگا کر سامنے دیکھنے لگتے۔ اور ناریل کی ایک شاخ پر بیٹھی ہوئی فاختہ کی چونچ میں گھاس کی پتی پر لرزتا ہوا اوس کا موتی چاند کی کرنوں میں شرارے کی طرح چمک رہا تھا۔

”ماں!“ خلوف چیخا ”ریکی اور ولی نے تو مورچے —“

استانی نے چونک کر پچھتم کی طرف دیکھا۔ ریکی اور ولی مورچوں سے اچھل کر باہر آ گئے، اور بڑے سعادت مندانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ ”ماں! ہم کہانی سنیں گے۔ ہم اب قطعی نہیں بولیں گے۔“

”تم نہیں بولو گے تو میں بھی نہیں بولوں گا؟“ خلوف نے کہا۔

اور استانی نچی ہوئی گھاس کو ندی میں گراتے ہوئے بولی: ”چاند نیچے ہی نیچے بہا جا رہا ہے۔ وقت کم ہے، میں تیزی سے بولوں گی اور جلدی سے ختم کر دوں گی، اور پھر میں اپنی گپھا میں چلی جاؤں گی اور وہاں سے نہیں نکلوں گی جب تک مشرق و مغرب کے سب بچے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میرے پاس نہیں آئیں گے۔“

”ادھر کئی لڑکوں کے ہاتھوں سے پیپ بہ رہی ہے ماں!“ ریکی نے

پورب کی طرف اشارہ کیا اور پھر اچانک سہم گیا۔ ”میں معافی چاہتا ہوں ماں!“

استانی آنکھیں مل کر بولی ”تو مطلب یہ ہوا کہ میں کہانی کہہ کر ہمیشہ



کے لئے چلی جاؤں یہاں سے — میں کہہ رہی تھی کہ انسان نے اس کے بعد تیر کمان ایجاد کئے۔ مٹی کے برتن بنائے، پتھر کی کلباڑیوں اور آگ کی مدد سے کشتیاں بنائیں، اور ساحل ساحل گھومنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کھیتی باڑی کرنا سیکھا، پورب میں اناج پیدا ہونے لگا، پورب میں دودھ پیا جانے لگا۔ پورب میں گاؤں بسنے لگے اور پچھتم والے اسی طرح خانہ بدوش رہے، انہیں دودھ دینے والا صرف ایک جانور لیامال سکا۔ میں سمجھتی ہوں کہ پورب کی پرانی سامی اور آریا نسلیں اُس زمانے کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ نسلیں تھیں۔“

پستہ قد طرار لڑکا، جس نے کہیں درانتی چھپا رکھی تھی، اٹھ کر اچانک بولنے لگا ”اور یہی پورب آج ریکی اور ولی کی تجربہ گاہ کیوں ہے ماں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ لوگ اسی تہذیب کا آج مذاق کیوں اڑاتے ہیں، اور یہاں کے بچوں کے سوا انہیں توپوں کا ایندھن اور کہیں کیوں نہیں ملتا؟ ماں! کیا میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ ایٹم بم کا تجربہ پورب والوں پر کیوں ہوا؟ کیا پچھتم میں ریکی کا کوئی دشمن نہ تھا؟ اور کیا پورب کے وہ ہزاروں بچے، جو ایٹم کے جہنم میں جل کر راکھ ہو گئے اس لئے پروان چڑھائے گئے تھے کہ ریکی ان پر اپنی وحشت اور بربریت کا ایک گُر آزمائے؟“

”میں تو خیر ریکی اور ولی کی خبر لے لوں گا ماں! — لیکن میرے دوسرے بھائی، — آخر کب تک — آخر کب تک ماں؟“

”ماں — ماں!“ پورب کے سب بچوں نے فریاد کی۔

”تمہیں بولنے کی اجازت کس نے دی تھی؟“ ریکی نے طرار لڑکے سے پوچھا، اور گولا اچھالا۔

”اور تمہیں کس نے اجازت دی تھی؟“ لڑکے نے درانتی نکالی۔

”تہذیب سیکھو۔“ ولی نے طرار لڑکے کو ڈپٹ کر کہا ”صدیوں سے مغز کھپا رہا

ہوں تمہارے ساتھ۔“

لڑکے نے ایک ققمہ لگایا۔ سب اُدھ ننگے بچے مسکرانے لگے اور ولی آستینیں چڑھانے لگا۔

”پھر کیا ہوا ماں؟“ خلوف نے موقعہ غنیمت جانا۔

”پھر جب گاؤں آباد ہونے لگے“ استانی بھی جیسے منتظر بیٹھی تھی، تیزی سے بولنے لگی ”اور آبادی بڑھی تو کھیتی باڑی کے لئے زیادہ زمینوں کی ضرورت ہوئی، مگر ہر طرف گھنے جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ سو لوہا ڈھونڈ نکالا گیا، جس سے کلہاڑیاں بنیں اور جنگل صاف ہونے لگے۔ ہل کی پھالیں ڈھلیں اور ہر بھرے کھیت لہلانے لگے۔ تلواریں بنائی گئیں اور — تو میں کہہ رہی تھی کہ جب انسان نے اکٹھا رہنا سیکھا اور اس کی ملکیت بڑھنے لگی تو وہ قبیلوں میں بٹ گیا۔ پھر قبیلوں کے سردار چنے گئے، اور جب آہستہ آہستہ گاؤں پھیل کر شہر بن گئے اور سردار پھول کر بادشاہ بن گئے تو شراہیں کشید کی گئیں، عورتیں بیچی جانے لگیں، جہاز تیار ہوئے، عمارتیں تیار ہوئیں، اور وہ تہذیبیں ابھریں جن سے تمہاری باقاعدہ تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یعنی جب اس کے بعد لوہا اتنا عام ہو گیا کہ اس سے توپیں ڈھلیں اور کارخانے تیار ہوئے اور سارے ملک کی دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ آئی، اور بادشاہ صرف دستار کے طرے یا ٹوپی کے پھول کی حیثیت اختیار کر گئے اور آخر کار ہیرو شیمیا میں انسانی تہذیب — میری تہذیب — میری دھرتی کی“ — استانی کا گلا بھر آیا۔

روتے روتے اس کی گھگھی بندھ گئی، رندھے ہوئے گلے سے بھیگی بھیگی بیٹھی بیٹھی آواز نکلی ”چاند لڑھکا جا رہا ہے بچو، مجھے جانا چاہیے۔“

”نہیں ماں!“ خلوف اور پوربی بچے اور اس کے بعد رکی اور ولی بھی چلا اٹھے اور ایک ٹانپے کے سناٹے کے بعد دور — بہت ہی دور سے ہوا کا ایک جھونکا ”نہیں ماں! — ابھی نہیں ماں!“ کی ان گنت آوازیں اٹھا

کر لایا، اور ان جزیروں پر بکھیر کر آگے نکل گیا، اور فاختہ کی چونچ میں اٹکی ہوئی گھاس کی پتی پر اس کا قطرہ گرتے گرتے بچا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے کروڑوں میل دور سے ایک تھکا ماندہ جھونکا آیا اور تانبے کی ننھی ننھی کٹوریوں کی سی آوازوں میں گائے ہوئے گیتوں کی لڑیاں ذہنوں میں جھنجھناتی چھوڑ کر جیسے کہیں سو گیا۔ کھو سا گیا، اور پھر ہر طرف ایک ایسا سناٹا چھا گیا جس میں ذرہ ذرہ سنانے لگتا ہے؛ بالکل گرمیوں کی دوپہروں والا سناٹا، مگر کتنا خنک اور لطیف — استانی کچھ سوچنے لگی تھی۔

سب بچے استانی کے آخری فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ جھکے ہوئے چاند نے ناریلوں کے سایوں کے آخری سرے دور دھند تک پھیلا دیئے تھے۔

آخر خلوف سے نہ رہا گیا ”یہ کیا بات ہے ماں! کہ انسان نے جس قدر ترقی کی ہے اسی قدر مہلک ہتھیار ایجاد کئے۔ پھر آگے بڑھا تو تلوار ڈھالی، پھر توپیں بنائیں، اور اب اس نے زہر اور جراثیم پھیلانے والی گیسوں اور ایٹم بم ایجاد کیا ہے۔ کیا یہی وہ سنہری تہذیب ہے ماں جس کے ولی اور مکی قصیدے پڑھ رہے ہیں؟ — تو پھر اگر یہ چند راجے مہاراجے اور ترقی کریں گے ماں، تو کیا ایک ایسا ہتھیار ایجاد نہیں کریں گے جس سے یہ دھرتی چیخ اور تڑخ کر پرزے پرزے ہو جائے اور اس کے ٹکڑے خلاؤں میں بکھر جائیں — کیا انسانی تہذیب کا عروج یہی ماں یا؟ —

”میں خود سوچتی ہوں خلوف“ استانی نے سر اٹھا کر کہا ”میں خود اس بات پر غور کر رہی ہوں کہ اب آگے کیا ہو گا۔“

”یوں کر لیں ماں!“ مکی بولا ”کہ میں ذرا پہلے چاند کو دیکھ آؤں۔ اگر رہن سہن کے لائق ہوا تو میں تمہارے سب بچوں کو یعنی خلوف و لوف کو چاند پر چھوڑ آؤں گا“ اور پھر واپس آکر تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا ماں! اور

”جی نہیں۔“ خلوف خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔

”اور میں کی؟“ ولی نے فریاد کی۔

”چاند پر تو وہی جا کے بسیں گے جنہیں یہاں ٹھکانا نہیں ملتا“ خلوف بولا ”او دوست! اب تو یہ ساری دھرتی سارے انسانوں کی ہے۔ ان کی جن کو تم نے برسوں سے پچھاڑ رکھا ہے، اور ان کی جن کے بھیجے تم نے اپنے عجائب گھروں میں سجا رکھے ہیں۔“

اور اچانک فاختہ نے ہر طرف چکر لگانا شروع کر دیئے اور اس کی چونچ کے قریب چمکتا ہوا موتی کا دانہ تیز اڑانوں کی زد میں آکر سنہری دائرے بننے لگا، اور یہ دائرے استانی کے چہرے پر ہالے بن کر جیسے جے کے جے رہ گئے اور اُدھر کی اور ولی سیٹیاں بجا بجا کر فاختہ کو اپنی طرف بلانے لگے۔

پوربی بچے مسکراتے ہوئے تن کر کھڑے ہو گئے اور خلوف بولے چلا گیا۔ ”اور ماں! اب تم مایوس ہو کر گپھا کا رخ کیوں کرتی ہو؟ اب تو چاند لڑھک کر بہت دور جا چکا ہے اور پورب کے دھند لکوں تلے دبی ہوئی پو دھڑک رہی ہے۔ ابھی شعاعوں کی پچکاری چھوٹے گی اور پھر تم دیکھو گی کہ ہم کالے گورے، نیلے پیلے انسان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے تمہارے اردگرد رقص کر رہے ہیں اور کی اور ولی بھی ہم میں شامل ہیں اور ہماری ساری دھرتی پر نیکی ہے اور خوبصورتی اور مسکراہٹ ہے۔“

”مجھے تو معاف ہی رکھیے نجومی صاحب!“ ولی نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ ”ان عماموں اور دھوتیوں اور لنگوٹیوں کے ساتھ مل کر رقص کرنا میرے ”وے آف لائف“ کے خلاف ہے۔ یہ تمھی کو مبارک ہو۔“

استانی مایوس ہو کر اٹھی ”کوئی مجھے گپھا تک پہنچانے آئے گا یا میں

اکیلی چلی جاؤں؟

اور پھر بے قرار فاختہ کو کو چلا اٹھی، اور گھاس کی پتی ہوا میں کروٹیں

بدلنے لگی اور اس کا موتی پوربی ٹاپو میں گر پڑا۔ لہروں کا ایک پر بت گرجتا ہوا ابھرا اور پورب کی طرف برق رفتاری سے لڑھکتا چلا گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ پو پھٹی اور مغرب و مشرق اور جنوب و شمال سے بھاری بھاری آوازیں بلند ہوئیں: ”نہ جاؤ ماں! — نہ جاؤ — نہ جاؤ۔“

استانی سرو قد کھڑی ہو گئی، اور بہت دور نظریں جما کر چار طرف گھوم گئی۔ خلوف اور اس کے ساتھ پورب کے سب بچے اکڑ کر کھڑے ہو گئے جیسے کنواری پو کو سلامی دے رہے ہیں۔ مکی کے جزیرے پر ایک خوفناک شور بلند ہوا۔ مکی پلٹا تو لوہے میں ڈھلے ہوئے ہاتھ، جن کے ساتھ ٹوٹی ہوئی رسیوں کے ٹکڑے لٹک رہے تھے، اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھے آرہے تھے۔

”بغاوت!“ وہ چلایا۔

ولی نے بھی اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور اپنی ٹھوڑی کے لٹکے ہوئے گوشت کو نوچنے لگا، اور کہیں دور نظریں جما کر چلایا: ”بغاوت!“

اور پھر چاند کا رنگ باسی روٹی کی طرح بالکل پھیکا پڑ گیا، اور فاختہ استانی کے ارد گرد نہایت تیزی سے تیرتی رہی، اور ناریلوں نے اپنے سائے سمیٹ کر اپنے اندر جذب کر لیے اور ندیوں کا سرمئی پانی گول مول لہریئے شکر یزوں پر اچھلتا کودتا گنگنے لگا۔

اور مکی ان گنت آہنی اور کالے بھنگ ہاتھوں کے سمٹتے ہوئے محاصرے سے بوکھلا کر پیچھے ہٹتا آیا، اور جب پانی میں قدم رکھا تو چلایا ”ولی!“

اور ولی نے آواز دی ”میں ابھی کچھ دیر کے بعد حاضر ہو رہا ہوں بھائی! میں شیو کر لوں، تم فی الحال ہمت سے کام لو، اور یہ گولا ادھر پھینک دو۔ میں سنبھال رکھوں گا“ — اور پھر وہ خلوف کی طرف دیکھ کر خوشامدانہ انداز میں مسکرانے لگا۔

مکی جو ایک ہاتھ سے راکٹ گھیٹتا آ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں گولے

کو جکڑ رکھا تھا، تھم گیا۔ راکٹ کو چھوڑ کر اس نے جیب سے ایک اور گولا نکالا اور نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر اور اپنا سارا لہو آنکھوں میں لا کر ایک گولہ آہنی ہاتھوں کے محاصرے پر پھینکا اور دوسرا پورب کی طرف، مگر دونوں گولے اوپر ہوا میں ابھر کر ٹکرائے۔ ولی چیختا ہوا آیا، ہانپتا ہوا خلوف سے لپٹ گیا، اور سر کو ریت میں دبا کر لیٹ گیا۔ پھر ہواؤں کی دھجیاں اڑا دینے والا دھماکہ کر کے، گولے سرخ، نیلے اور سبز شعلوں کی لمبی لمبی قلموں کی بارش بن کر کشتی میں سوار ہوتے ہوئے مکی پر برس پڑے۔ استانی نے زور کی ایک چیخ ماری اور بھاگ کر پورب والوں کے دلدلی ٹیلے پر آگری، اور فاختہ ایک گیند کی طرح اس کی جھولی میں گر کر سہمی سہمی اسے دیکھنے لگی۔ پوربی بچے ایک دم کچھ چپنے اور ورد کرنے لگے۔ ساری دھرتی کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔

اور پھر آگ کے اس طوفان میں سے ”زدوم“ کی ایک طویل گرج پیدا ہوئی اور راکٹ آنکھ کی جھپکی میں دھوئیں میں سے نکلتا فضا کو ایک طویل قوس سے چیرتا پھاڑتا، دور باسی اور مضحکہ خیز چاند کے مرے مرے اجالے کے مقابل ایک نقطہ بن کر غائب ہو گیا۔

”زدوم“ کی یہ آواز جیسے چاروں کھونٹ پھیلتی چلی گئی اور پھر مشرق سے کرنوں کی پچکاری چھوٹی۔ رات بھر کی تھکی ماندی اور دھماکے سے ڈری سہمی فاختہ ابھر کر اوپر ناریل کی ایک ڈولتی ہوئی شاخ پر جھولنے لگی۔ ہر طرف کلیاں کچھ اس طرح چٹکیں جیسے مرمریں فرش پر اشرفیاں گرتی ہیں۔ چھٹی ہوئی دھند میں لپٹے ہوئے مغرب و مشرق کے جزیروں پر سے بچے ”ماں! ماں!“ پکارتے ہوئے آگے بڑھے، اور کروڑوں کوس دور سے جھونکوں کے بازوؤں پر سوار ہو کر آنے والی موسیقی قریب آنے لگی۔ — قریب آتی گئی —

اور پھر جب پورب پچھتم کے کالے گورے، پیلے نیلے بچے استانی سے نیلے کے گجرے لے لے کر رقص کرتے ہوئے دائرے میں شامل ہونے لگے، تو

انہوں نے دیکھا کہ ان کی استانی تو بالکل جوان ہے۔ اس کے حسن میں گلاب اور چمپارچے ہوئے ہیں، اس کی سانسوں تک میں مہک ہے۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں میں، جو نئے نئے سورج کی شعاعوں میں سنہری جھلکی مار جاتے ہیں، گندم کی بالیں سجا رکھی ہیں۔ اس کے ہونٹوں میں شفق گھل گئی ہے اور ان میں سے ایک نغمہ رس رہا ہے، — مدہم — اور مسلسل — مدہم اور مسلسل اور مسلسل اور مسلسل!



## مصوّر

(ایک ریڈیائی کھیل)

(دربارِ شاہی میں ہجوم کی سرگوشیاں ابتدا میں چند لمحے جاری رہتی ہیں اور پھر)  
ایک آواز: (دبی ہوئی مگر تیز سرگوشی میں) خاموش! وزیرِ اعلیٰ سیاس  
اور وزیرِ زادہ عباس تشریف لارہے ہیں۔

(خاموشی کا مختصر سا وقفہ جو وزیر اور وزیرِ زادے کے قدموں کی چاپ  
سے ٹوٹ جاتا ہے)

عباس: شاہِ غاسان نے ہماری مبارزِ طلبی کا کوئی جواب بھیجا ہے اباً  
جان؟

سیاس: میرے خیال میں آقائے عالی وقار شاہِ طغران نے غاسانیوں کو  
لاجواب کر دیا ہے۔

عباس: شاہِ ذی جاہ کو بھی تو مبارزِ طلبی کا ایک ایسا ڈھنگ سوجھا ہے  
کہ غاسان چاہے اپنی ساری جسمانی اور روحانی قوتوں کو بروئے کار  
لے آئے وہ ہم طغرائیوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

سیاس: مقابلے میں کامیابی کا سوال تو جب پیدا ہوتا بیٹا کہ غاسانیوں کو  
ہمارے مقابل آنے کی ہمت ہوتی۔ مجھے یقین ہے کہ اب خون کا ایک  
قطرہ بہائے بغیر صوبہ ریاض ہماری سلطنت سے منسلک کر لیا جائے گا۔



عباس : میں سوچتا ہوں ابا جان! کہ اگر دنیا کی تمام سلطنتیں اپنے جھگڑوں کو اسی طرح فیصل کرنے لگیں تو تلواریں ڈھالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور انسانی خون کی ارزانی ایک داستان پارینہ بن کر رہ جائے۔

سیاس : مصیبت یہ ہے عباس بیٹا! کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو فن کو تلوار پر فوقیت دینے کے قائل ہوں۔ ہمارے داناؤں اور حکیموں نے کہا ہے کہ فن تلوار سے افضل ہے، اس لئے جب مقابلہ ٹھن جائے تو سب سے پہلے فنی ہتھیار استعمال کرنے چاہئیں۔ اور جب ان ہتھیاروں کی دھاریں مسلول ہو جائیں تو پھر بے شک لوگ وحشت اور بربریت پر اتر آئیں۔ لیکن ہمارے فیلسوفوں کو یقین ہے کہ فن غیر فانی ہے اس لئے فنی ہتھیار کبھی بے کار نہیں ہو سکتے۔

عباس : ابا جان! داناؤں نے فنی ہتھیاروں کو اس قدر کیوں اچھالا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ تصوف، روحانیت کا بلند ترین اور مقدس ترین مقام ہے اور فن ہر حال میں اس سے بیٹا ہے۔

سیاس : اپنا اپنا خیال ہے بیٹا! جب کسی ملکی مسئلے کی گتھی سلجھانے سے نہ سلجھے تو جانتے ہو ہمارے آقائے عالی وقار شاہ طغران کیا کرتے ہیں؟

عباس : ستار سنتے ہیں۔

سیاس : ہاں۔ ستار سنتے ہیں، یا رقص ملاحظہ فرماتے ہیں، یا کسی

سنگتراش کا شاہکار منگوا بھیجتے ہیں، یا کسی مصور کی ایک سادہ سی تصویر دیکھ لیتے ہیں اور آن کی آن میں ان پر دنیا جہان کی تمام حقیقتیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے تو انہوں نے شاہ غاسان کو کہلا بھیجا ہے کہ صوبہ ریاض پر حکومت کرنے کا حق صرف طغرانیوں کا ہے جو صدیوں

کی کسی پرانی غلطی سے مملکت غاسان میں شامل ہے۔ تلوار نکالنے سے پہلے اس حق پر غور کرو۔ اور اگر ہم سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہو تو سب سے پہلے فنی لڑائی لڑو۔ اور تین مہینوں کے اندر اندر اپنی فنی عظمت ثابت کر سکو تو کرو ورنہ صوبہ ریاض کو بزورِ شمشیر سلطنتِ طغران میں شامل کر لیا جائے گا۔

عباس : ابا جان! سنا ہے کہ غاسان کے مغنی جب اپنے سازوں کے تار چھیڑتے ہیں تو بادل لڑکھڑا کر زمین پر بچھ جاتے ہیں، اور پھول مہک کر اوپر فضا میں معلق ہو جاتے ہیں۔

سیاس : (ہلکے سے ہنس کر) یہ غلط ہے بیٹا۔ یہ جھوٹی افواہیں ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ شاہ غاسان چند ہی روز میں مشہور مغنی ریحان کو ہمارے ہاں بھیجے گا، ہمیں فنی شکست دینے کے لئے۔

عباس : اور اس کے مقابلے میں آئے گا ہمارا سحر کار مغنی رحمان! ہماری فتح کا اعلان کرنے کے لئے۔

سیاس : اور اگر شاہ غاسان ابھی تک لاجواب نہیں ہوا تو رحمان کے ستار کے تار اسے اپنی تقدیر کا لکھا سنادیں گے۔

(شاہ کی آمد کے اعلان کی خاطر سب سے اول کہیں دور دمے پر چوٹیں پڑتی ہیں اور پھر دربار میں ایک جلال آمیز ساز کے سُر ابھرتے ہیں جو آخر کار بہت مدہم ہو کر شاہ طغران کے قدموں کی چاپ میں بدل جاتے ہیں)

ایک آواز : طغران کی نئی صبح اپنے شہنشاہ کے حضور میں نقرئی کرنوں،  
بو قلموں پھولوں اور ان گنت خوشبوؤں کی ڈالی نذر کرتی ہے۔

شاہ : (تھکے ہوئے انداز میں) وزیر اعلیٰ سیاس!

سیاس : آقائے عالی وقار!

شاہ : آج تمام رات ہمارا ذہن ایک عجیب سے خلفشار سے دو چار رہا، اور جب مشرق سے افق کی کمان نے شعاع کا پہلا چلہ چڑھانا چاہا تو ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کوئی ہماری بے خواب روح کو تھکے۔ ایک بت، ایک رقص، ایک شعر، ایک تصویر، ایک نغمہ — ہم قصر شاہی میں صبح صادق کے دھندلے اجالے میں گھومتے پھرے۔ ہم نے فنونِ لطیفہ کے ہر شاہکار سے اپنی احتیاج ظاہر کی مگر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے، جیسے ہمارا وجدان دم توڑ چکا ہے اور ہمارے باطنی جلال کا چاند گہنا گیا ہے۔

سیاس : فن غیر فانی ہے عالی وقار!

شاہ : (ذرا تیزی سے جس میں بیزاری بھی ہے اور غصہ بھی) ہم نے فنا اور بقا کے اسرار کو سمجھنے کے لئے اپنی نیندیں لٹا دیں، لیکن بس یہی بات سمجھ میں آئی کہ سوت کی انٹی سلجھانے سے الجھتی ہے اور سلجھ جائے تو کچے تار کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ دامن گیر ہو جاتا ہے۔

سیاس : شہنشاہ نے تو بے شمار الجھنیں سلجھائی ہیں۔

شاہ : اور شاید اسی لئے ہماری زندگی کا تار ٹوٹنے کو ہے۔

سیاس : (جلال سے) سیاس شہنشاہ کی حیات کو طویل سے طویل تر کرنے کے لئے موت تک کی ہنسی اڑا سکتا ہے۔

شاہ : تم آپے سے باہر ہو چلے سیاس۔ ہماری یہ گفتگو راز دارانہ تھی۔

درباری چونک اٹھے ہیں — (سرگوشیاں)

عباس : اگر غلام زادے کو اجازت مرحمت فرمائی جائے تو ان تمام

الجھنوں کا ایک علاج تجویز کرنے کی جرأت کرے۔

شاہ : تم غلام زادے نہیں عباس، وزیر زادے ہو۔ ہمیں تمہارا علاج

قبول ہوگا۔ بعض اوقات جوانیاں برف کے گالوں سے چنگاریاں اور آگ کے شعلوں سے پھول چن لاتی ہیں۔ ہمیں اس کا تجربہ ہے۔ تمہیں اجازت ہے۔

سیاس : (سرگوشی میں) عباس بیٹا کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ عتابِ شاہی نازل ہو۔

عباس : (سرگوشی میں) بے فکر رہیے ابا جان! (بلند آواز میں) رحمان معنی کو حضور پر نور کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت بخشی جاتی ہے۔ (ستار کا ایک تار تن سے اس کا جواب دیتا ہے اور پھر رحمان معنی کے قدموں کی چاپ ابھر کر ایک جگہ رک جاتی ہے۔)

شاہ : وزیر اعلیٰ سیاس! ہم وزیر زادہ عباس کی دور اندیشی اور خوش مذاقی پر تمہیں مرعبا کہتے ہیں۔

سیاس : مجھے آقائے عالی وقار کے ان ارشادات پر ناز رہے گا۔

عباس : اور مجھے حضور پر نور کا یہ فرمان شمعِ راہ کا کام دے گا۔

شاہ : رحمان! کیا سوچ رہے ہو؟ تم اور راغب مصور ہی تو دو ایسی شخصیتیں ہیں جن کو ہم نے شمشیر و سپاہ پر بھاری کر رکھا ہے۔ دیکھتے نہیں ستار کے تار تمہاری انگلیوں کی پوروں کو کیسی حسرت بھری نگاہوں سے تک رہے ہیں۔

(رحمان ستار بجاتا ہے اور جب اس کی انگلیوں میں والمانہ تیزی بھر

جاتی ہے تو اچانک دربار کے پرلے سرے پر شور و غوغا بلند ہو جاتا

ہے)

شاہ : (غصے میں) ہمارے خیالوں پر برستی ہوئی نغموں کی پھوار کو کس نے چوسنے کی جرأت کی ہے؟ کس نے ہمارے جذبات کے ہلکورے

کھاتی ہوئی ڈالیوں پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ کیا ہے؟ — اس شور  
مچانے والے ہجوم کو فوراً "ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔"

(شور بہت قریب آجاتا ہے اور پھر رک جاتا ہے)

نوروز: غلام کو رنش بجالاتا ہے۔

شاہ: نوروز! زندان کے مہتمم ہونے کے باوجود تمہیں اب تک ہجوم  
کو اپنی گرفت میں لانے کا سلیقہ نہیں آیا۔ کیوں؟

نوروز: غلام مجبور تھا عالی جاہ!

شاہ: مجبور؟ تم نے اس ذلیل لفظ کو ہمارے سامنے دہرانے کی جرأت  
کیوں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے شاہی فرمان جاری کر کے  
طغران کی تمام فرہنگوں سے یہ لفظ خارج کر دیا ہے۔ مجبوری ذلت  
ہے، بے دست و پائی ہے، محتاجی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ طغران کا  
کوئی باشندہ ہماری پناہ میں رہ کر اپنے آپ کو مجبور تصور کرے۔

نوروز: غلام درگزر کا طالب ہے۔

شاہ: کہو، یہ شور کیسا تھا؟

نوروز: دربارِ عام میں اس حادثے کا ذکر کرتے ہوئے زبان رکتی ہے  
عالی جاہ! اگر ناگوارِ خاطر نہ ہو تو غلام کو خلوت میں تمام حالات عرض  
کرنے کی سعادت بخشی جائے۔

شاہ: نہیں۔ ہم ان کج کلاہوں میں شامل نہیں ہیں جو لنگوٹی میں پھاگ  
کھیلا کرتے تھے۔ ہمارا ہر راز ہماری رعایا کا راز ہے۔ جب ہماری  
رعایا کے کسی فرد کی جبین پر کوئی شکن نمودار ہوتی ہے تو شاہی ماتھے  
پر شکنوں کا ایک جال بچھ جاتا ہے۔ ہمارے قمقمے رعایا کے قمقموں

سے عبارت ہیں اور رعایا کے آنسوؤں نے ہمیں خلوتوں میں اکثر رلایا ہے۔

نوروز: یہ معاملہ براہ راست — (رک جاتا ہے)۔

شاہ: رک کیوں گئے؟

نوروز: عالیجاہ! یہ معاملہ براہ راست، شاہ طغران کی نورِ نظر شنزادی بلیقیس سے تعلق رکھتا ہے۔

شاہ: بلیقیس سے؟ ہماری بیٹی سے؟ — اور تمہارا خیال یہ ہے کہ

ہماری رعایا کے لئے ہماری بیٹی ہمیشہ ایک راز ہے۔ رعایا بادشاہ کی معنوی اولاد ہے اور نوروز! بلیقیس صرف اس لئے راز نہیں رہ سکتی کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ کھلے بندوں کہہ دو جو کچھ کہنا ہے۔

نوروز: عالیجاہ! میں اپنے گھر سے نکل کر زندان کی طرف جا رہا تھا کہ شاہی قصر کے مشرقی درتچے کے نیچے مجھے ایک ہجوم نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو عالی جاہ کے محبوب مصور راغب ایک آوارہ سے نوجوان کو تھامے کھڑے تھے اور ہجوم اس نوجوان کی آنکھیں پھوڑ دینے کا تقاضا کر رہا تھا۔

شاہ: کیا راغب ابھی تک دربارِ شاہی میں نہیں آیا؟

راغب: کورنش بجالاتا ہوں شاہِ ذی جاہ!

شاہ: راغب! نوروز سنی سنائی بات کہہ رہا ہے۔ ہم آنکھوں دیکھے

واقعے کو فوقیت دیتے ہیں۔ کہو کیا بات ہوئی؟

راغب: شاہِ ذی جاہ! میں آج طلوعِ آفتاب کا منظر دیکھنے کے لئے دریا

کے کنارے چلا گیا تھا، مگر اس نظارے سے اس قدر سرشار ہوا کہ

دریا کی لہروں پر — آفتاب کی بکھری ہوئی قاشوں کا ناچ دیکھتے

دیکھتے بہت دیر ہو گئی۔ چونک کر میں دربارِ شاہی میں حاضر ہونے کو لپکا

اور جب قصر شاہی کے مشرقی درتچے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ  
ایک نوجوان محل کے درتچے پر نظریں گاڑے دم بخود کھڑا ہے اور  
درتچے میں ———!

شاہ: اور درتچے میں؟

سیاس: درتچے میں کیا تھا راغب؟

راغب: اور درتچے میں ———

شاہ: (غصے میں) کون تھا درتچے میں؟

راغب: شہزادی بلقیس۔

شاہ: بلقیس؟

عباس: درتچے میں شہزادی کھڑی تھیں؟

شاہ: اور بلقیس اس نوجوان کو دیکھ رہی تھیں؟

راغب: نہیں عالی جاہ! نوجوان بلقیس کو دیکھ رہا تھا۔

شاہ: سچ سچ بتاؤ۔

راغب: عالیجاہ جھوٹ بولنے کی کسے جرأت ہو سکتی ہے؟

شاہ: تو پھر کہاں ہے وہ نوجوان جس نے بجلی کو چابک سمجھ کر اسے ہاتھ

میں لینا چاہا، جس نے شعلے کو پھول سمجھ کر اسے سونگھنا چاہا، جس نے

شاید یہ نہیں سنا کہ شاہ طغران کی تیوری تلوار کا کام کرتی ہے اور اس

کے ہونٹوں کی ایک ذرا سی حرکت حکومتوں کے تختے الٹ دیتی ہے۔

کہاں ہے وہ نوجوان؟

عباس: کہاں ہے وہ نوجوان جس نے شاہزادی پر ناپاک نظریں ڈال کر

مملکت طغران کی تمام بہو بیٹیوں کو گھورنے کا حوصلہ کیا ہے۔ اگر

حضور پر نور کی اجازت ہو تو عباس اسے اپنی یہ تلور دے کر ———

(تلوار میان سے نکالنے کی آواز)

شاہ : ہماری میانوں میں سے تلواریں اتنی عجلت سے نہیں نکل آیا کرتیں وزیر زادے!

عباس : (تلوار کو آہستہ سے میان میں ڈالنے کی آواز) غلام درگزر کا طالب ہے۔

سیاس : عباس نوجوان ہے آقائے عالی وقار! اور جوانی چڑھتا اور بڑھتا ہوا سورج ہے۔ میں اپنی طرف سے اپنے آقا کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ اگر اس نوجوان کے انجام کا اعلان تلوار کی زبان سے ہونا قرار پائے تو عباس کی تلوار جو میان سے نکل کر اپنے بادشاہ کے خوف سے پھر میان میں دبک گئی، اس اعزاز کے لئے چنی جائے۔

شاہ : تمہاری یہ درخواست قبول کی جاتی ہے سیاس! ہاں تو وہ نوجوان کہاں ہے؟

راغب : نوروز اسے لینے گیا ہے عالی جاہ۔

شاہ : مگر اس نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ کیا نوروز اس قدر نادان ہے کہ وہ ہمارے دل میں سلگتے ہوئے جہنم اور ہمارے دماغ میں کڑکتی ہوئی بھلیوں کا اندازہ نہیں لگا سکا؟

راغب : وہ اُس نوجوان کو دربارِ شاہی کے آداب بتانے گیا ہے عالی جاہ!

شاہ : (غصے میں) میں پوچھتا ہوں جس شخص نے بادشاہِ وقت کی عزیز ترین امانت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، اسے دربارہ شاہی کے آداب سکھانے سے کیا فائدہ؟ قتل کرنے والے کو یہ بتانا کہ دوسرے



کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا کرتے، بے وقوفی ہے، اور نوروز بے قوف ہے۔۔۔ حاضر کرو اسے۔

(خاموشی کا وقفہ۔۔۔ کھسر پھسر شروع ہوتی ہے مگر دب جاتی ہے)

نوروز: (کڑک کر) کورنش بجالاؤ۔۔۔ (خاموشی)

نوروز: کورنش بجالاؤ۔۔۔ (خاموشی)

شاہ: نوجوان!

پرویز: شاہ طغران!

شاہ: کون ہو تم؟

پرویز: میں انسان ہوں۔

شاہ: کہاں کے رہنے والے ہو؟

پرویز: ساری دنیا میرا وطن ہے۔ ندی کنارے کی ریت، میدان کا سبزہ

اور پریتوں کی دھندلی گھاٹیاں میرا بستر ہیں اور تاروں بھرا آسمان میرا

خیمہ ہے۔ یہاں وہاں، ہر مقام میرا ہے۔ میں کائنات کا دولہا ہوں،

کیونکہ میں انسان ہوں۔

عباس: استعاروں میں باتیں کر کے ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے آوارہ؟

شاہ: خاموش عباس۔

پرویز: (دھیرے سے ہنس کر) آوارہ؟ عباس نے اپنی طرف سے مجھے

گالی دی ہے، حالانکہ آوارہ میرا لقب ہے اور مجھے اس لقب پر فخر

ہے۔ کیونکہ فن آوارگی کے سوا پنپ ہی نہیں پاتا۔

شاہ: نوجوان! سنبھل کر بات کرو اور یہ نہ بھولو کہ اس وقت تم شاہ

طغران کے حضور میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہو۔

پرویز : اور مجھے اس نامعلوم جرم کی سزا بھی مل چکی ہے۔ اگر میں اپنے سینے پر سے لبادہ اٹھا کر آپ کو چند تازہ زخم دکھا دوں تو کہیں میں درباری آداب کی خلاف ورزی تو نہیں کروں گا۔

شاہ : تازہ زخم؟ تمہیں کس نے سزا دی؟

پرویز : میں کسی کا نام لے کر اس پر عتابِ شاہی نازل کرنے کا سبب نہیں بنوں گا۔ کیونکہ میں نے شاہی ذہنیت کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بادشاہ چیونٹی کو مسل ڈالتے ہیں اور شیر کو بخش دیتے ہیں (طنزیہ ہنسی) 'بھولے بادشاہ!'

شاہ : نوروز! — اسے زندان کی تاریک ترین — مگر نہیں،

یہ ہمارا قاعدہ نہیں، ہم بھٹک چلے تھے — نوجوان! کیا آج سویرے تم قصرِ شاہی کے مشرقی درتپے کے نیچے پکڑے گئے تھے؟

پرویز : مجھے یہ علم نہیں کہ وہ دریچہ مشرقی تھا یا مغربی، کیونکہ اس وقت شش جہات نے سمٹ کر ایک مرکز قبول کر لیا تھا۔ لیکن ایک درتپے کے نیچے مجھے پکڑا ضرور گیا۔

شاہ : کس جرم میں؟

پرویز : ابھی تک مجھے اپنے جرم کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی۔

راغب : عالی جاہ! اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔

شاہ : ہمارے محبوب مصور راغب کو اجازت ہے۔

پرویز : مصور؟ کیا تم بھی مصور ہو؟

راغب : جب تم کو درتپے کے نیچے سے پکڑا گیا تو اس وقت درتپے میں کون تھا؟

پرویز : ایک لڑکی تھی، جس کی آنکھیں نیلے سمندروں کی پناہ گاہیں معلوم ہوتی تھیں۔

عباس : حضور پر نور! یہ آوارہ گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔  
 شاہ : ہم اس سے غافل نہیں عباس، لیکن مجرم کو مفصل بیان کا حق پہنچتا ہے۔

راغب : کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟  
 شاہ : نہیں، یہ سوال بیہودہ ہے۔ مملکتِ طغران میں ہر لڑکی کی عصمت ہماری امانت ہے۔

راغب : عالی جاہ! ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان سلطنتِ طغران کا باشندہ نہ ہو۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شاہزادی بلقیس پر نگاہیں ڈالنے کا گنہگار ہے۔

پرویز : مجھے معلوم نہ تھا کہ دریچہ قصر شاہی کا تھا اور درتچے والی شاہزادی بلقیس تھی۔

شاہ : اور اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا تو کیا پھر بھی تم یہ جرأت کر سکتے تھے؟

پرویز : حسن جہاں بھی ملے اور جس صورت میں بھی ملے، فن کار کا اثاثہ ہے۔

شاہ : تم فن کار ہو؟

پرویز : میں مصور ہوں۔

راغب : تم بھی مصور ہو؟

شاہ : اور کیا تم جانتے ہو کہ مملکتِ طغران میں فنِ مصوری کا معیار کتنا بلند ہے؟

پرویز : فنی کمال کا کوئی نقطہ آخری مقرر نہیں کیا جاسکتا۔

شاہ : تم نے آج ہمارے جلال کو بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ لیکن تمہارے فن کارانہ بھولپن سے ہم اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ تمہیں

بخش دیئے بغیر چارہ نہیں۔

عباس : شہنشاہ!

سیاس : آقائے عالی وقار!

شاہ : ہم نے نوروز کو جو لفظ استعمال کرنے سے روکا تھا، وہی بار بار

ہماری زبان کی نوک پر تڑپ رہا ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ اس نوجوان

مصور کو بے گناہ سمجھ کر آزاد کر دیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو راغب؟

راغب : عالی جاہ کی وسعتِ جود و سخا کو اپنے ذہن میں سمو لینے کی ناکام

کوشش کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں عالی جاہ! کہ کہیں اس نوجوان

نے شاہِ طغران کی فنی قدردانی سے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا۔ کیا یہ سچ

سچ کا مصور ہے یا بہروپیا ہے؟

شاہ : ہاں! کیا تمہارے پاس اپنے مصور ہونے کا ثبوت ہے؟

پرویز : میرا سارا وجود، میری ساری شخصیت، میری رگ رگ اور نس

نس اس امر کا ثبوت ہے کہ میں مصور ہوں۔

شاہ : کوئی مرئی ثبوت پیش کرو — جیتا جاگتا — ٹھوس

ثبوت۔

پرویز : فن کو ٹھوس ایسے کرخت بولوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔

راغب : ملاحظہ فرمایا عالی جاہ نے؟ یہ نوجوان صرف بن رہا ہے۔

شاہ : وزیرِ اعلیٰ سیاس تمہارا کیا خیال ہے؟

سیاس : مجھے اس نوجوان کے بیان پر شبہ ہے۔

عباس : اور مجھے بھی حضور پر نور! — اس کے ماتھے اور کانوں

اور گردن پر جھولتی جٹائیں، اس کی ادھ کھلی خطرناک آنکھیں، اس

کے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہونٹوں کی طنزیہ تڑپ، اس کی گردن کا

فرعونی خم، یہ سب باتیں اس امر کی شاہد ہیں کہ یہ مصور نہیں

— کوئی جاسوس ہے یا محض آوارہ۔

پرویز: عباس! ہم تم ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ میں تمہارے دل کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تم کسی گہرے روحانی صدمے سے دوچار معلوم ہوتے ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔

شاہ: (قدرے غصے سے) اپنے مصور ہونے کا ثبوت پیش کرو۔

راعب: سنتے ہو؟

پرویز: سن رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے مصور ہونے کا ثبوت پیش کرنے سے انکار کر دوں تو شاہ طغران میرے لئے کون سی سزا تجویز کریں گے۔

شاہ: (مزید غصے سے) ثبوت پیش کرو۔

پرویز: (حوصلے سے) سزا تجویز کیجئے۔

شاہ: (اچانک حیرت سے) لیکن تمہیں ثبوت پیش کرنے سے انکار کیوں ہے؟

پرویز: وہ بادشاہ جس کی سلطنت پر فن حکمران ہے، اگر ایک سچے فن کار کے چہرے پر فنی جلال نہیں دیکھ سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ بادشاہوں کی پرانی روش اختیار کر لے اور تلوار کو میان سے آزاد کر کے اپنی زمین پر انسانی لہو کے گل بوٹے بنا دے۔

شاہ: تم اپنے جرائم میں اضافے پر اضافہ کرتے جا رہے ہو۔ ہمارے ہاں تلوار کی حیثیت ثانوی سہی، لیکن ابھی اس کی دھار کند نہیں ہوئی اور یہ وہی تلوار ہے جو ہمارے اجداد کی گرفت میں آکر چٹانوں تک کے کلیجے میں اتر گئی ہے۔

پرویز: میں اپنے جرم کی سزا چاہتا ہوں۔

شاہ : شاید تم اس بات سے بے خبر ہو کہ تمہارا جرم ہولناک ہے اور اس لئے اس کی سزا بھی ہولناک ہوگی۔

پرویز : (تلخی سے) مجھے ہولناک سے ہولناک سزا قبول ہے لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اتنے بد مذاقوں کے ہجوم میں میرا مذاق اڑایا جائے۔

شاہ : ہمیں تمہاری زبان درازی نے مجبور کر دیا ہے کہ ہم پھر سے تمہارے جرم کو ابتدا سے سنیں۔

پرویز : میں ہر جواب کے لئے تیار ہوں۔ اس گھٹے گھٹے جے جے ماحول سے مجھ کو جلد چھٹکارا ملنا چاہیے۔

شاہ : اور اگر تمہیں اپنی زندگی ہی سے چھٹکارا دلایا گیا تو؟

پرویز : موت اور حیات کا فاصلہ فن کار کے نزدیک ایک قدم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

شاہ : (کڑک کر) تم نے شاہزادی کو دیکھا — ہماری بیٹی کو؟

پرویز : میں نے ایک درتچے میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا — میرے لئے ایک شاہزادی اور دہقانی لڑکی — دونوں ہم پایہ ہیں، کیونکہ دونوں عورتیں ہیں۔

شاہ : کیا شاہزادی نے بھی تمہاری طرف دیکھا تھا؟

پرویز : ایک مرتبہ دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی۔

شاہ : کسے؟

پرویز : مجھے۔

شاہ : یہ غلط ہے۔

پرویز : مجھے اس الزام کا ثبوت چاہیے۔

شاہ : ہم کہتے ہیں تمہارا بیان غلط ہے۔

پرویز: مجھے اس الزام کا ثبوت چاہیے۔

عباس: اس کا ثبوت؟ اس کا ثبوت یہ تلوار ہے (تلوار نکالنے کی

آواز) جو تمہارے —

شاہ: نہیں عباس۔ تم خاموش رہو۔ اس کا ثبوت خود بلقیس مہیا کرے

گی۔ بلقیس کو ہمارے حضور حاضر کیا جائے۔

سیاس: کھلے دربار میں جہاں پناہ؟

شاہ: ہاں سیاس! کیونکہ انصاف خلوتوں میں نہیں پنپ سکتا۔ بلقیس کو

حاضر کیا جائے۔

سیاس: پیغام بھجوادیا گیا ہے جہاں پناہ!

شاہ: اور بلقیس کے بعد ہم اس نوجوان سے اس کے دعوے کا ثبوت

مانگیں گے۔ یقیناً یہ مصور نہیں۔

عباس: اور عالی جاہ! اگر یہ مصور ہو تب بھی اس کے جرم کی شدت

میں کمی نہیں آسکتی۔

شاہ: ہمارا محبوب مصور راغب اس کی مصوری کو پرکھ لے گا۔

راغب: غلام ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ ویسے اس نوجوان کی باتوں

میں رنگوں اور خطوں کی دلاویز آمیزشیں ضرور جھلک رہی ہیں۔

عباس: عالی جاہ کو اس کا ثبوت چاہیے۔ جھلکیاں حقیقتیں نہیں ہوا

کرتیں۔

راغب: ہر جھلکی حقیقت ہے عباس! یہ فن کاراز ہے، تلوار کا نہیں۔

شاہ: ہمارے درباری آج آداب مجلس سے بیگانہ ہو چلے ہیں۔ عباس

اور راغب کو آپس میں گفتگو کرنے کی کس نے اجازت دی؟

(خاموشی) یہ معما ایسا نہیں کہ اس کا حل ڈھونڈنے کے لئے تم سب

آپس میں دلیل بازی کرنے لگو۔

ایک آواز : — شہزادی بلقیس باریابی کی اجازت چاہتی ہیں جہاں  
پناہ!

شاہ : اجازت ہے۔

بلقیس : (کچھ دور سے) آداب بجالاتی ہوں ابا جان!

شاہ : اس وقت تم بادشاہ کے حضور میں ہو، جہاں ذاتی جذبہ حکومت  
نہیں کرتا۔ سامنے آجاؤ۔ (خاموشی) ہم کہتے ہیں سامنے آجاؤ۔

بلقیس : (قریب سے ڈرتے ڈرتے) جہاں پناہ!

شاہ : تم آج طلوع آفتاب کے وقت قصر شاہی کے مشرقی درتچے میں  
گئیں؟

بلقیس : گئی تھی حضور!

شاہ : اور یہ نوجوان نیچے سے گزرا؟

بلقیس : جی ہاں حضور!

شاہ : پھر کیا ہوا؟ (خاموشی)

شاہ : (گرج کر) پھر کیا ہوا؟

بلقیس : (ڈری ہوئی آواز میں) یہ جاتے جاتے رک گیا اور میری  
طرف دیکھنے لگا۔

شاہ : اور پھر؟

بلقیس : اور پھر دیکھتا رہا۔

شاہ : کب تک؟

بلقیس : جب تک شاہی مصور راغب نے اسے پکڑ نہ لیا۔

شاہ : اس کے بعد؟

بلقیس : اس کے بعد ہجوم نے اسے گھیر لیا — اور سب تقاضا

کرنے لگے کہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دینا چاہیے۔ اتنے میں زندان



کے مہتمم نوروز وہاں پہنچ گئے اور اسے زدو کوب کیا۔

شاہ: کس کے حکم سے؟

بلیقیں: یہ میں نہیں جانتی ابا جان — (رک کر) جہاں پناہ!

شاہ: کس کے حکم سے نوروز؟

نوروز: میں ضبط نہ کر سکا عالی جاہ! — میں جان بخشی کا خواستگار

ہوں۔

پرویز: زندان کے مہتمم سے ضبط کی امید نہیں کی جا سکتی — اگر

میری وجہ سے اس پر عتاب نازل ہو رہا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔

شاہ: لیکن ہمیں شکایت ہے نوروز سے — کہ اس نے ابھی تک

ہمارے عزیز ترین قانون کا احترام کرنا نہیں سیکھا۔ مگر یہ فیصلہ بعد میں ہو گا۔ پہلے ہمیں بلیقیں سے تمام حالات پوچھ لینے چاہئیں۔ ہاں تو بلیقیں! تم نے بھی اس کی طرف دیکھا؟

بلیقیں: (ڈر کر) ایک مرتبہ دیکھا تھا جہاں پناہ!

شاہ: اور پھر؟ —

بلیقیں: اور پھر راغب آگیا جالی جاہ!

شاہ: یعنی اس کے درتچے کے نیچے سے گزرنے اور راغب کی آمد تک

تم اس کی طرف دیکھتی رہیں۔

بلیقیں: جہاں پناہ!

شاہ: (سخت لہجے میں) کیا تم بھول گئی تھیں کہ تم طغرانی نسل کی آبرو

ہو؟ کیا تم بھول گئی تھیں کہ طغرانی عورتوں نے غیر مرد کی نگاہوں کی

زد میں آکر اپنے اور دیکھنے والوں کے سینوں میں خنجر بھونک دیئے۔

کیا تم بھول گئی تھیں کہ تم نے اُس ماں کا دودھ پیا ہے جس نے

غاسان کی سرحد پر طغرانی سپاہیوں کو پلٹتے دیکھ کر دشمنوں کی صفوں کی صفیں زمین پر بچھا دی تھیں؟

بلقیس : میں نے صرف حیرت سے دیکھا تھا جہاں پناہ! — کہ اس عجیب سے نوجوان کو میری طرف دیکھنے اور دیکھتے رہنے کی جرأت کیسے ہوئی۔

سیاس : یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے عالی جاہ!

شاہ : سیاس!

عباس : یہ ایک غیر شعوری عمل ہے جہاں پناہ!

شاہ : عباس!

راغب : شہزادی بے قصور ہے شہنشاہ!

پرویز : جی ہاں۔ شہزادی بے قصور ہے اور اگر کوئی قصور وار ہے تو

صرف پرویز جس نے شہزادی کو نہیں فن کو دیکھا، جس نے شہزادی پر

فن کار کی پاکیزہ ترین نگاہ ڈالی، جس نے شہزادی کے پیکر میں ایک

شاہکار کے خاکے کو مجسم پایا۔ شہزادی نے حیرت سے پرویز کو دیکھا اور

دیکھتی رہی اس لئے وہ بے قصور ہے۔ پرویز نے احترام سے شہزادی

کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا اس لئے وہ گردن زدنی ہے۔ کیا یہی ہے

شاہ طغران کا انصاف جس کے ڈنکوں نے دنیا بھر کے کانوں کو بہرہ کر

رکھا ہے۔

سیاس : نوجوان!

شاہ : ہم حیران ہیں کہ اس عجیب و غریب مجرم سے کیا برتاؤ کریں؟

راغب : عالی جاہ کی اجازت ہو تو غلام کچھ عرض کرے۔

شاہ : ہاں ہاں! کہو راغب! اور بلقیس بیٹی ادھر آجاؤ۔ تم سے مخاطب

ہوتے وقت ہم نے اپنے وجود کو دو شخصیتوں میں تقسیم کر لیا ہے۔

بلقیس: (روتے ہوئے) ابا جان!

شاہ: (تسلی دیتے ہوئے) رم جھم برستے ہوئے بادلوں میں سے کبھی

کبھی بجلیاں بھی گر پڑتی ہیں بیٹی! ہاں تو راغب کیا تجویز ہے تمہاری؟

راغب: جہاں پناہ! مجھے اس مصور سے مقابلے کی اجازت دی جائے۔

شاہ: مقابلہ؟

عباس: عالی جاہ! یہ غلام آپ سے وعدہ لے چکا ہے کہ عباس ہی اپنی

تلوار سے —

راغب: نہیں نہیں۔ وزیر زادے! آپ کو غلطی ہوئی۔ میرا مقابلہ

رنگوں کی آمیزشوں اور خطوط کے خموں کے زور پر ہو گا اور مجھے یقین

ہے کہ میرے موع قلم کی ایک ذرا سی جنبش اس نوجوان پر اپنی عافیت

واضح کر دے گی۔ میں نے تصویر کے لبوں کے تکنونی گوشوں میں کپکپی

ابھارنے کے لئے ہفتے اور مہینے صرف کئے ہیں۔ آنکھوں کی ایک ایک

پلک سنوارنے کے لئے میں نے اپنی شاداب ترین راتیں لٹائی ہیں۔

اور اس لڑکے کا ابھی تجربہ ہی کیا ہو گا؟

پرویز: (غصے میں) مجھے یہ مقابلہ قبول ہے اور میں شاہ طغران سے التجا

کرتا ہوں کہ وہ اپنے سامنے اسی وقت اس مقابلے کی ابتدا کا اعلان

کریں۔

شاہ: کیا نام ہے تمہارا؟

پرویز: پرویز۔

شاہ: پرویز! کیا بات ہے کہ پہلے تو تم حد درجہ سہل انگاری کا ثبوت

دیتے رہے اور اب یکایک چمک اٹھے ہو؟

پرویز: پہلے میری شخصیت زیر بحث تھی۔ اب میرے فن پر حملہ ہوا

ہے اور میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہجوم میں سے جس نے بھی

میری پُتھی مجھ سے چھینی ہے، وہ لاوے۔ راغب اسی وقت یہیں آپ کے سامنے اپنا سامان منگوائے اور ہمیں چند پلوں میں کسی چیز کا خاکہ اتارنے کا حکم دیا جائے۔

شاہ: راغب — تمہارا کیا خیال ہے؟

راغب: میں حاضر ہوں جہاں پناہ! مگر عالی جاہ کو تکلیف ہو گی انتظار سے۔

شاہ: نہیں ہم اس دوران میں رحمان سے ستار سنیں گے۔ پُتھی کہاں ہے پرویز کی؟

نوروز: یہ حاضر ہے جہاں پناہ!

شاہ: نوروز! یہ پُتھی پرویز کے حوالے کر دو — راغب اپنا سامان منگوا بھیجے۔

راغب: سب سامان یہیں دربار میں موجود ہے عالی جاہ۔

شاہ: اور تم دونوں ایک - ایک - (رک کر) بلقیس بیٹی ان مصوروں کو کوئی موضوع سمجھاؤ۔

بلقیس: ایک — ایک حیران چہرہ —!

پرویز: حیران چہرہ — کس کا چہرہ شہزادی؟

بلقیس: کسی کا بھی ہو۔

راغب: (اپنے آپ سے) ایک حیران چہرہ! مگر کس کا؟

شاہ: بلقیس نے تمہیں موضوع بتا دیا ہے۔ ہم اس چہرے کا صرف

خاکہ دیکھیں گے، صرف خطوط۔ چند ہی ثانیوں کے بعد ہم تمہیں

طلب کریں گے۔ رحمان اس دوران میں ستار بجائے گا۔

(رحمان ستار بجاتا ہے۔ چند لمحے ستار بجتا رہتا ہے)

شاہ : تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے پرویز! — رحمان ستار بند کرو۔

(ستار بند ہو جاتا ہے)

پرویز : مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ صرف آپ کے بلاوے کا انتظار ہے۔

شاہ : اور حیران چہرے کا خاکہ؟

پرویز : تیار ہے!؟

شاہ : تیار ہے۔

راغب : اتنی جلدی؟ تم فن کے حضور میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو پرویز!

شاہ : مگر راغب! تم بے شک مکمل کر لو اپنا خاکہ۔

پرویز : خاکے مکمل نہیں ہوا کرتے شاہ طغران! — خاکے بنیادیں ہوتی ہیں اور بنیادوں کو دیکھ کر ایوانوں کا تصور کر لیا جاتا ہے۔

شاہ : اپنا خاکہ ادھر لاؤ۔

پرویز : راغب کو میرا خاکہ دکھایا جائے اور مجھے راغب کا خاکہ، کیونکہ اگر ہم دونوں سچے فن کار ہیں تو کوئی ذاتی دلچسپی ہمارے فیصلوں میں خارج نہیں ہو سکے گی۔

شاہ : تم اپنے خاکے آپس میں بدل سکتے ہو۔

راغب : مگر عالی جاہ! میں تو ابھی۔

شاہ : نہیں راغب! خاکے بدلو۔ (وقفہ)

پرویز : راغب! — وزیر زادہ عباس کے حیران چہرے کا خاکہ اتارنے میں تم نے نفاست کا ضرورت سے زیادہ ثبوت دیا ہے۔ شاید اس لئے کہ یہ وزیر زادے کا چہرہ ہے اور تمہارے دماغ پر وزیر اعلیٰ کے عتاب کا خوف سوار تھا۔

شاہ : راغب! تم کیا سوچ رہے ہو؟ (خاموشی) — راغب!

راغب : جہاں پناہ!

شاہ : کیا بات ہے؟

راغب : مجھے اس سحرکار نوجوان، اس جادوگر مصور کی زندگی کی بھیک مطلوب ہے جہاں پناہ!

شاہ : کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم کچھ نہیں سمجھے۔

راغب : پرویز کی جان بخشی فرمائی جائے۔

شاہ : لیکن آخر کیوں؟

راغب : کیونکہ اگر پرویز مر گیا تو فن مر جائے گا، حسن لٹ جائے گا، صباحت دم توڑ دے گی۔

شاہ : مگر راغب! تمہاری حیرت کا باعث؟

راغب : پرویز نے ایک حیران چہرے کا خاکہ نہیں اتارا۔ ساری دنیا کو

— ساری کائنات کو — حیرت کے بھنور میں چھوڑ دیا

ہے۔ اس کے بے پروائی سے کھنچے ہوئی خطوط نے جہاں حیرت کی

شدت کا اعجاز پیدا کیا ہے، وہاں حسن بھی ہے، شوق بھی ہے، زندگی کی

دھڑکن بھی ہے، اور آدمیت کی رعنائی بھی۔ اور یہ چہرہ ہے —

یہ چہرہ ہے —

شاہ : کس کا چہرہ ہے؟

راغب : اور یہ چہرہ ہے عالی جاہ! — شہزادی بلقیس کا۔ ملاحظہ

فرمائیے —

(ہجوم کی سرگوشیوں کی سرسراہٹیں شروع ہو جاتی ہیں)

عباس: یہ گستاخی ہے صریحاً "گستاخی ہے۔"

سیاس: پرویز نے منہ مانگی موت پائی ہے۔

نوروز: اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ (سرگوشیاں رک جاتی ہیں)۔

شاہ: آفتاب مشرق سے طلوع ہوتے ہی لپک کر مغرب میں غروب

نہیں ہو جاتا۔ ستارے اپنے مسجود کا طواف مقررہ راہیں چھوڑ کر نہیں

کیا کرتے۔ جذباتی تیزی، ہمت کی کمی اور حوصلے کی خامی ہے۔ اور

شاید ہمارے درباری بھول گئے ہیں کہ روح کے آگینہ پن اور

خیالات کی پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہم نے فن کو قرار دے رکھا

ہے۔ یہ تصویر، — یہ شعبہ — یہ اعجاز اس امر کا ثبوت

ہے کہ پرویز نے بلقیس پر بری نظریں نہیں ڈالیں۔ اور ہم پرویز سے

مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کوئی فرمائش کرے۔ ہم اسے قبول

کر کے پرویز پر کوئی احسان نہیں دھریں گے۔ اپنے ہی جذبات کو

تھپکیں گے۔

پرویز: مجھے یہ خاکہ واپس مل جانا چاہیے۔

شاہ: یہ کیسے ہو سکتا ہے پرویز؟ یہ یادگار ہمارے قصر کی رونق بڑھائے

گی۔

پرویز: مجھے یہ خاکہ واپس چاہیے!

شاہ: لیکن آخر کیوں؟

پرویز: میں اپنی زندگی کی عزیز ترین متاع کو مرمر کے ایوانوں کی زینت

نہیں بناؤں گا۔

شاہ: لیکن یہ خاکہ تم نے ہمارے دربار میں اتارا ہے۔

راغب : اور ہمارے ہاں کا قاعدہ ہے پرویز کہ جو تصویر دربار میں اتاری جائے وہ شاہی ملکیت ہوتی ہے۔

پرویز : مگر میں درباروں اور جھونپڑوں کی حد بندیوں سے بلند ہوں۔ مجھے میری تصویر واپس چاہیے۔

شاہ : (غصے میں) شاید تم نے آج تک کسی شاہی دربار میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل نہیں کی۔

پرویز : مجھے میری تصویر چاہیے۔

شاہ : تم کو ایک مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ ان تیس دنوں کے اندر اندر تم اپنے آپ سے فیصلہ کرو کہ تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے یا یہ خاکہ۔ اور جب تم فیصلہ کر لو گے تو تمہاری تقدیر کا لکھا تمہیں سنا دیا جائے گا۔

پرویز : مجھے میری تصویر چاہیے شاہ طغران! میں زندگی اور فن کو ایک ہی میزان میں تولنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ فن کی بے حرمتی ہے۔

شاہ : راغب! یہ تصویر پرویز کے حوالے کر دو۔ ایک مہینے کے بعد ہم یا تو اس سے یہ تصویر لیں گے یا اس کی زندگی۔

راغب : مگر عالی جاہ!۔

شاہ : یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ اس دوران میں پرویز کو زندان کے کھلے اور روشن کمرے میں رکھا جائے۔ اس کی بچھی اس سے نہ چھینی جائے۔ اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے تاکہ یہ خوشگوار ماحول میں اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر سکے۔

پرویز : فن کار کی عدالت میں فیصلوں کی نگرانیاں نہیں ہوا کرتیں بھولے بادشاہ۔

شاہ : نوروز! اسے لے جاؤ۔



نوروز : جہاں پناہ! (قدموں کی چاپ — طبل پر زور کی چوٹ  
— بھاری قدموں کی چاپ، قفل کھولنے اور آہنی دروازہ کھلنے

(کی آواز)

نوروز : ابھی تک جاگ رہے ہو پرویز!

پرویز : میری آنکھوں سے نیندیں نچڑ چکی ہیں نوروز! میری ساری  
زندگی کی بیداریاں اور خواب ایک نقطے میں جمع ہو کر گھل گئے ہیں  
(آہ بھر کر) لیکن تم ان باتوں کو کیا سمجھو گے، تم جو زندان کے مہتمم  
ہو، آہنی دروازوں میں قفل چڑھانے اور زنداں کی پتھریلی دیواروں  
کو بلند تر کرنے کے عادی ہو، تم کیا سمجھو گے یہ باتیں!

نوروز : لیکن مجھے تم سے محبت ہے پرویز۔ مجھے تمہاری جوانی سے محبت  
ہے۔ مجھے تمہاری زندگی سے محبت ہے۔

پرویز : اور نوروز — مجھے تمہاری انسانیت سے محبت ہے

— انسانیت جو شاہی ایوانوں میں بیوہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور  
غریبوں کے جھونپڑوں اور زندانوں کی تاریکی میں سہاگن کی —  
تمہارے وجود میں سہاگن انسانیت مجتسم ہو چکی ہے — شہزادی  
بلیقیس کے خاکے کو میری خواہش کے مطابق سرحدِ طغران پر پہنچا دینا  
کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا — اور نوروز! کاش میں تمہارے  
اس احسان کے عوض تمہیں کچھ پیش کر سکتا — کاش!

نوروز : جو احسان بدلہ لینے کی خواہش سے کیا جائے، وہ احسان نہیں  
پرویز، تجارت ہے، اور میں تاجر نہیں ہوں۔ انسان ہوں۔

پرویز : تم انسان ہو۔ تم سچے انسان ہو۔ اور میں خوش ہوں کہ اس  
ایک مہینے کی قید کی آخری رات جب دم توڑ رہی ہے تو تم میرے  
سامنے موجود ہو۔ میرے دوست، میرے ساتھی، میرے رفیق!

نوروز: وہ خاکہ ابھی تک تمہیں یاد آتا ہے پرویز؟  
 پرویز: وہ ایک بنیاد تھی جس پر میں چاہتا تھا کہ ایک ایوان ابھاروں۔  
 وہ خاکہ اگر اس وقت میرے پاس ہوتا۔  
 نوروز: اور اب صبح کو جب جہاں پناہ تم سے آخری فیصلہ سننے آئیں  
 گے تو؟

پرویز: تو میں یہ خاکہ شہزادی بلقیس کے قدموں میں رکھ دیتا اور کہتا کہ  
 اے وہ جس کے وجود میں حسن و جمال کی تمام رعنائیاں، تمام کمال،  
 تمام رفعتیں مجسم ہو گئی ہیں، ایک سچے فن کار سے یہ تحفہ قبول کر

نوروز: جہاں پناہ کے سامنے؟  
 پرویز: ہاں شاہ طغران کے سامنے۔ فن کے بہت بڑے قدردان کے  
 سامنے۔ میری تمنا تھی کہ میرے ہاتھوں میں وہ خاکہ ہوتا اور میرے  
 لبوں پر یہی باتیں ہوتیں۔ اور شاہ طغران کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی  
 — اور زندگی اور موت کے پہاڑ آپس میں ٹکراتے تو پرویز کے  
 ہونٹوں پر اطمینان کی مسکراہٹ ہوتی اور چہرے پر ایک شہید کا جلال۔

(اچانک دور سے آوازیں آتی ہیں)

عباس: نوروز؟ نوروز کہاں ہیں؟ ارے بھئی ہم نوروز سے ملنا چاہتے  
 ہیں۔ ہم وزیر زادہ عباس ہیں۔ ہمیں زندان کے مہتمم سے ایک  
 ضروری بات کہنی ہے۔ نوروز — نوروز!  
 نوروز: وزیر زادہ عباس! اس وقت؟ — (بلند آواز سے) آنے  
 دو وزیر زادے کو۔

(قدموں کی چاپ۔ اسی دوران میں پرویز بولتا ہے)

پرویز : دنیا میں یہ پہلا وزیر زادہ ہے جس کی آنکھ طلوع آفتاب سے پہلے کھلی۔

(آہنی دروازہ کھلنے کی آواز)

نوروز : آداب بجالاتا ہوں۔

عباس : معاف کیجئے گا نوروز! ہم بے وقت آئے۔ لیکن ہمیں پرویز

سے خلوت میں چند باتیں کہنا ہیں۔ تم پر سلامتی ہو پرویز!

پرویز : فن کار اگر مخلص ہے تو وقت کے ہر دور میں زندہ و سلامت

ہے۔ ویسے تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوئی۔ مجھے تم سے ہمدردی

ہے۔ نہ جانے کیوں!

نوروز : میں اجازت چاہتا ہوں۔

عباس : مگر نوروز! کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ یہ مجھ پر تمہارا احسان

ہوگا۔

(دروازہ بند ہونے کی آواز)

پرویز : کہو عباس! کیسے آنا ہوا اتنی رات گئے؟

عباس : پو پھٹ چکی ہے۔

پرویز : خوب۔ تو پو پھٹ چکی اور نیا دن طلوع ہو چکا۔ مگر تمہاری محبوبہ

کہاں ہے؟

عباس : میری محبوبہ؟ — کیا مطلب ہے تمہارا؟

پرویز : تمہاری تلوار، جو ذرا ذرا سی بات پر میان سے اچھل اچھل پڑتی ہے۔

عباس : وہ زندان کے محافظوں کے پاس ہے۔ وہ کسی شخص کو ہتھیار اندر نہیں لانے دیتے۔ میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں۔

پرویز : اگر برداشت کر سکو تو یہ کھٹولا حاضر ہے۔ اس پر بیٹھو۔

عباس : (بیٹھتے ہوئے) شکریہ۔

پرویز : تکلیف فرمائی کا سبب؟

عباس : پرویز! میرے اجنبی دوست! میں آج تم پر ایک ایسا راز منکشف کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں جو اگر کسی اور کو معلوم ہو جائے تو میں اپنی ہی تلوار سے اپنا کام تمام کر دوں گا۔

پرویز : لیکن میں نے تم سے یہ راز طلب نہیں کیا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم اسے اپنے پاس محفوظ رکھو۔

عباس : میں مجبور ہوں کہ تمہیں اپنا ہماز بناؤں۔ (درد ناک لہجے میں)

میں دکھی ہوں پرویز۔ تم میری محبت کے چاند پر گہن بن کے چھا گئے

ہو۔ میں نے کانٹوں اور انگاروں پر چل کر جو تھوڑا سا فاصلہ طے کیا

تھا، وہ میرے پاؤں تلے سے نکل کر میری طویل مسافت میں مل گیا ہے

اور اس وقت میں اپنی منزل سے اتنا ہی دور ہوں جتنا پہلے روز، جب

میں نے ————— جب میں نے —————

پرویز : جب تم نے؟

عباس : جب میں نے شہزادی بلقیس کو درتپے میں دیکھا تھا۔

پرویز : تم نے؟

عباس : ہاں میں نے پرویز! اُس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا اور شہابی رنگ کی شعاعوں نے شہزادی کے چہرے پر گلال پھیر دیا تھا۔ وہ مجھے ایک مجسم شعلہ نظر آئی، اور شہزادی کے بال کھلے تھے اور وہ افق کو تک رہی تھی اور میں شہزادی کو تک رہا تھا۔

پرویز: اس کے بعد؟

عباس : اس کے بعد میں نے شہزادی کے قریب ہونا چاہا اور ہوتا گیا۔ مگر اچانک کہیں سے تم آگے اور یوں آئے، جیسے نودمیدہ کلیوں کی پھلوااری میں ایک بگولا گھس آئے۔ جیسے ننھے ننھے نقرئی چراغوں کے ہجوم میں ہوا کا ایک جھونکا ناچنے لگے۔

پرویز: میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا عباس!

عباس : بلیقیں ایک فن پرست انسان کی بیٹی ہے اور اس نے فن کی محبت وراثت میں پائی ہے۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ پرویز کی موجودگی میں، تمہاری موجودگی میں، کسی دوسرے انسان کا تصور تک بھی نہیں کر سکتی۔

پرویز: مگر میں نے تو ———

عباس : ہاں ہاں، تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپی آپ ہو گیا یہ سب کچھ ——— لیکن پھر بھی میں تم سے بھیک مانگنے آیا ہوں۔ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں اور کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے میں تمہارے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ تم، جو ہر انسان سے محبت کرنے کے دعویدار ہو، مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔

پرویز : لیکن میں کیا خدمت کر سکتا ہوں تمہاری؟ میرے پاس یہ چند موقلم ہیں، یا یہ رنگوں کی پیالیاں اور ———

عباس : وعدہ کرتے ہو؟

پرویز: وعدہ کرتا ہوں۔

عباس: وہ خاکہ بادشاہ کے حوالے نہ کرنا۔

پرویز: تاکہ میں مرجاؤں اور تمہارے لئے میدان خالی کر جاؤں؟

عباس: نہیں۔ ہمارے بادشاہ تلوار کا بہت کم استعمال کرتے ہیں، وہ

تمہیں بخش دیں گے۔ بس اتنا ہو گا کہ وہ تمہیں مملکتِ طغران سے باہر

چلے جانے کو کہہ دیں گے۔ اور اس طرح میرے اجنبی دوست!

— میری محبت کا چاند گھن سے نکل آئے گا اور جب یوں ہو گا

— (دور سے تیز تیز پاؤں کی چاپ) اور جب یوں ہو گا —

(چاپ قریب آ جاتی ہے) —

نوروز: (سرگوشی میں) عباس! عباس! باہر آ جاؤ۔ نکل آؤ باہر۔ ورنہ

تمہارا راز فاش ہو جائے گا۔ شہزادی بلقیس آ رہی ہیں۔

عباس اور پرویز: شہزادی بلقیس!

نوروز: عباس! کیا سوچ رہے ہو؟

عباس: (ہولے ہولے دور جاتے ہوئے) شہزادی بلقیس آ رہی ہیں۔

یہاں! زندان میں! پرویز کے پاس!

(دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز)

پرویز: اچھا تو بلقیس کو آخری وقت میرے پاس بھیج کر شاہ طغران

میری موت کو ایک عذاب بنانا چاہتا ہے۔

(دروازہ کھلتا ہے)

- پرویز: تشریف لائیے شہزادی صاحبہ — آئیے! (خاموشی)
- پرویز: میں حیران ہوں کہ آپ سے اس مڑے مڑے کھٹولے پر بیٹھنے کے لیے کیسے کہوں؟
- بلقیس: پرویز!
- پرویز: شہزادی!
- بلقیس: تم میرے مقروض ہو۔
- پرویز: شہزادی!
- بلقیس: تم میرے مقروض ہو نا؟ تم نے میرے چہرے کو اپنے خاکے کا پس منظر بنایا تھا!
- پرویز: پس منظر؟ آپ کا چہرہ ہی تو تھا جس نے اس خاکے کو آسمان پر بٹھا دیا۔
- بلقیس: تو پھر تم میرے مقروض ہو نا؟
- پرویز: مقروض ہوں!
- بلقیس: میرا قرض ادا کرو۔
- پرویز: جی!
- بلقیس: میرا قرض ادا کرو۔
- پرویز: وہ کیسے؟
- بلقیس: وہ خاکہ مجھے دے دو۔
- پرویز: خاکہ؟
- بلقیس: ہاں! وہ خاکہ مجھے دے دو۔ کیونکہ پرویز! — پرویز!
- (آواز بھرا جاتی ہے) میں بھی یاد رکھوں گی کہ میرے آسمانِ زندگی پر بھی ایک چاند ابھرا تھا۔
- پرویز: خاکہ شہزادی؟

بلقیس : میں اسے تمہاری امانت سمجھ کر اپنے سینے سے لگائے رکھوں گی  
ہمیشہ۔ کیونکہ پرویز! — تم نے — تم نے —

پرویز : میں لٹ چکا ہوں شہزادی!

بلقیس : کیا؟

پرویز : خاکہ میرے پاس نہیں!

بلقیس : تمہارے پاس نہیں؟ تو پھر کس کے پاس ہے؟

پرویز : یہ میں نہیں بتا سکتا لیکن مجھے دکھ ہے کہ وہ اس وقت میرے  
پاس کیوں نہیں۔ شہزادی! تم نے خزاں سے پھول طلب کئے ہیں۔ تم  
نے صحرا سے پانی مانگا ہے۔

بلقیس : مگر آخر کہاں ہے وہ خاکہ؟ — وہ خاکہ جس سے مجھے

تمہاری زندگی خریدنا تھی۔ جس سے مجھے اپنی امیدوں کے گلزار سجانا  
تھے۔ جس کے بل بوتے پر مجھے تمہیں جیتنا تھا۔ موت کے ہاتھ سے  
— بادشاہت کے ہاتھ سے — ساری دنیا کے ہاتھ سے۔

پرویز : شہزادی! — اور اب شہزادی؟ —

(خاموشی)

شاہ : (گرج کر) بلقیس — سنپولی — کٹنی — تم

یہاں؟ — تم یہاں؟ — ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم آستین  
میں سانپ پال رہے ہیں۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ جو پھول ہمارے گلزار  
میں کھلا ہے وہ اصل میں زہری پڑیا ہے۔ تم نے ہماری صدیوں کی  
آبرو کو مٹی میں ملا دیا۔ تم نے آلِ طغران کے ماتھے پر لعنتیں لکھ دی  
ہیں۔ تم نے ہمارے ناموس کا گلا گھونٹ دیا ہے۔



بلقیس: ابا جان! — ابا جان! — میں تو یہاں —!

شاہ: ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ ہم اپنی تلوار سے رعایا کے سامنے تمہاری گردن اتاریں گے۔ تاریخ بلبلا اٹھے گی کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کے خون سے ہاتھ رنگ لئے اور طغرائیوں کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا کہ ان کے ایک بادشاہ نے ان کی آبرو اور عزت کی قربان گاہ پر اپنی بیٹی کو بھینٹ چڑھا دیا۔

سیاس: مگر جہاں پناہ! —!

شاہ: ہم کچھ نہیں سننا چاہتے سیاس!

سیاس: جان بخشی چاہتا ہوں جہاں پناہ! شہزادی سے زندان میں آنے کا سبب تو پوچھ لیا جائے۔

شاہ: جب سورج نکل آئے تو کسی سے یہ پوچھنا کہ اس وقت دن ہے یا رات، بچپنا ہے۔ ہم اندھے نہیں۔

سیاس: پھر بھی جہاں پناہ!

شاہ: بلقیس! سیاس پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں آئیں؟

بلقیس: انسانی زندگی کی قیمت مصوری کے ایک شاہکار اور شاعری کے ایک معجزے سے کہیں زیادہ ہے جہاں پناہ! یہ سبق آپ ہی نے مجھے سکھایا تھا اور مجھے اس بے قصور نوجوان پر رحم آیا تھا۔ اور میں اس سے التجا کرنے آئی تھی کہ وہ خاکہ میرے حوالے کر دے اور اپنی جوانی پر رحم کھائے۔ میں ایک انسان کو خود کشی سے بچانے آئی تھی ابا جان! — جہاں پناہ! —!

سیاس: شہزادی بے قصور ہے جہاں پناہ! —!

شاہ: وہ خاکہ کہاں ہے؟

بلقیس: میرے پاس نہیں!

شاہ: وہ خاکہ کہاں ہے پرویز؟

پرویز: میرے پاس نہیں۔

شاہ: تو پھر کس کے پاس ہے؟

پرویز: میں نہیں جانتا۔ لیکن اگر وہ خاکہ اس وقت میرے پاس ہوتا،

تب بھی وہ آپ کو نہ ملتا۔

شاہ: مگر وہ ہے کہاں؟

پرویز: میں نہیں بتا سکتا۔

شاہ: پرویز! ہم نے میان سے تلوار نکالے بغیر سلطنتیں جیتیں۔ ہم نے

خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر کروڑوں انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے

کئے۔ ہمارے ماتھے پر جب شکن آئی تو زمین کی طنائیں تن گئیں اور

جب ہم نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو دنیا نے آسمان کے چٹخنے کی آوازیں

سنیں۔ اور تم — ایک آوارہ چھو کرے — تم ہمارے منہ

آتے ہو؟ — ذرہ طوفان کا مقابلہ کرتا ہے؟ قطرہ سمندر سے

الجھنے کے درپے ہے؟ زاغ شاہین پر جھپٹنے کو تلا ہوا ہے؟ ہم یہ

برداشت نہیں کر سکتے اور اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری روحانی

قوتیں تمہیں راہِ راست پر لانے میں ناکام رہیں۔ اب جسمانی طاقت

تمہاری زبان سے تمام راز چوس لے گی (تلوار میان سے نکالنے کی

آواز) اب بتاؤ، خاکہ کہاں ہے؟

بلقیس: (چیخ کر) ابا جان!

سیاس: تلوار؟ شاہ طغران کے ہاتھ میں تلوار؟

شاہ: تم خاموش رہو سیاس! اس وقت کسی صلاح کار کی ضرورت

نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک سر پھرا چھو کر ہمارے جاہ و جلال سے

کھیلتا پھرے — وہ خاکہ کہاں ہے پرویز؟

پرویز: وہ میرے پاس نہیں۔

شاہ: تو پھر کہاں ہے؟

پرویز: میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن اگر میرے پاس ہوتا، تب بھی وہ اُس

ہاتھ میں نہیں جا سکتا جس نے تلوار تھام رکھی ہے۔ وہ ایک اور شخصیت کا حق تھا جس نے اسے تخلیق کیا، جس نے اس میں زندگی بھر

دی۔ اور اس وقت —

شاہ: خاکہ لاؤ۔

پرویز: نہیں ہے۔

شاہ: ہم کہتے ہیں خاکہ لاؤ۔

پرویز: نہیں ہے شاہ طغران!

شاہ: ہم آخری حکم دیتے ہیں، خاکہ لاؤ۔

پرویز: نہیں شاہ —

(بادشاہ کی تلوار پرویز کو دوسرا لفظ نہیں کہنے دیتی۔ اس کے گلے

سے موت کی غرغراہٹ کی آواز آتی ہے اور شہزادی زور کی چیخ

مارتی ہے!)

بلقیس: ابا جان! آپ قاتل ہیں، آپ خونی ہیں۔ آپ —

(بہت سے قدموں کی چاپ، جو بھاگتے ہوئے آتے ہیں)

عباس: عالی جاہ! — عالی جاہ! شاہِ غاسان کا ایلچی ابھی ابھی آیا ہے

یہ صندوقچہ لئے۔ وہ اتنی تیزی سے آیا ہے کہ جب اس نے گھوڑے

کو روکا تو لڑھک کر دور جاگرا اور خود اس کا جسم ٹھنڈے پینے سے  
شرابور ہو رہا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ شاہ غاسان کا پیغام  
پہنچانے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ ہو۔

شاہ: سیاست! اسے کھولو اور بتاؤ کہ وہ کیا کہتا ہے۔

عباس: پرویز! پرویز کو کس نے ذبح کر دیا؟ کس نے مارا ہے پرویز کو؟  
میں پوچھتا ہوں کون قاتل ہے پرویز کا؟

سیاس: خاموش رہو عباس! ——— عالی جاہ نے خود ——— (انتہائی  
حیرت سے) ارے! ——— جہاں پناہ یہ دیکھئے، یہ دیکھئے!

شاہ: وہی حیران چہرے کا خاکہ! یہ کیا ہو رہا ہے۔ کائنات گھومنے لگی  
ہے ——— ہماری آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں۔ ہمیں تھامو، ہمیں  
تھامو!

بلقیس: ابا جان!

سیاس: شاہ غاسان لکھتے ہیں عالی جاہ:

شاہ طغران نے صوبہ ریاض کا فیصلہ کرنے کے لئے ہم سے فنی مقابلے  
کی ٹھانی۔ شاید شاہ طغران کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں کے موقلم  
تلواروں کے سائے میں پروان چڑھے ہیں۔ اور اسی لئے ہم نے اپنے  
ایک نوجوان مصور پرویز کو ایک آوارہ فن کار کی صورت میں مملکت  
طغران میں بھیجا ہے جس نے شاہ طغران پر فنی فتح حاصل کی۔ اس کا  
ثبوت ہم اس نامے کے ساتھ بھجوا رہے ہیں اور شاہ طغران کو مشورہ  
دیتے ہیں کہ وہ ہمارے فاتح کو زندان سے آزاد کر کے صوبہ ریاض پر  
سے حریصانہ نگاہیں اٹھالے۔

بلقیس: (چیخ کر) ابا جان! ——— ابا جان!

سیاس: کیا ہو گیا جہاں پناہ کو؟

شاہ : (انتہائی ماندگی سے) شاہِ غاسان نے ہمارے منہ پر ایک زناٹے کا  
تھپڑ مارا ہے اور خود اس سحر کار، اس جادوگر مصور کی جان لے کر ہم  
نے اپنی ہی انسانیت کا منہ نوچ لیا ہے۔ ہم شکست خوردہ ہیں۔ ہمارا  
فن شکست خوردہ ہے۔ ہماری بادشاہت شکست خوردہ ہے۔ ہماری  
آدمیت شکست خوردہ ہے۔

(تھکی ہوئی سانسیں)

نوروز : جہاں پناہ کا غلام نوروز اپنے شہنشاہ سے پرویز کی میت کی بھیک  
مانگتا ہے۔

شاہ : پرویز کو شاہی قبرستان میں ہمارے پہلو میں دفن کیا جائے۔

بلقیس : ابا جان! (روتی ہے)۔

شاہ : اب ہم تھک چکے ہیں۔ اپنے ہی ارادوں اور تمناؤں کی لاشوں

کے بوجھ سے ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ ہم پر فن اور اس کی عظمت کا

سورج غروب ہو چکا ہے۔ ہماری زندگی کی رات ریگتی چلی آ رہی

ہے۔ جھپٹے سے پہلے ہمیں وہ خاکہ دکھاؤ۔ کہاں ہے وہ خاکہ؟


بلقیس : یہ آپ کے سامنے ہے ابا جان!

شاہ : اسے قریب لاؤ۔ اور قریب لاؤ۔ قریب لاؤ۔

!\_\_\_\_\_

(ساز کے دردناک سُر ابھر کر ہولے ہولے مدھم پڑتے ہوئے رک جاتے ہیں)





لاہور

اساطیر